

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ


# اسلامی زندگی

مُصَنَّفَةٌ

حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خاں صاحب

نصیبی کتب خانہ گجرات





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اٰیٰتٍ لِّمَن يَخْتَصِرُهَا

ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا ہے  
ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کی وقار میں  
الحمد للہ مبارک رسالہ

مروجہ رسموں کی گندگی مٹانے والا مسلمانوں کو سچی رسمیں سکھانے والا

# اسلامی زندگی

مصنفہ

حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خاں صاحب

فلسفہ غوثیہ نعیمیہ کجرات پاکستان

نعیمی کتب خانہ کجرات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ  
 وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَآدَمِيًّا أَلَمَّا  
 وَالطَّيِّبُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

## مسلمانوں کی بیماریاں اور انکا علاج

آج کون سا دور رکھنے والا دل ہے جو مسلمانوں کی موجودہ لہتی اور انکی موجودہ ذلت و خواری اور ناداری پر نہ دکھتا ہو اور کون سی آنکھ ہے جو ان کی غربت مفلسی، بے روزگاری پر آنسو نہ بہاتی ہو، حکومت ان سے پھنی دولت سے یہ محروم ہوئے، عزت و وقار ان کا ختم ہو چکا زمانہ کی ہر مصیبت کا شکار مسلمان بن رہے ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے مگر دوستو فقط رونے اور دل دکھانے سے کام نہیں چلتا بلکہ ضروری ہے کہ اس کے علاج پر خود مسلمان قوم غور کرے علاج کے لیے چند چیزیں سوچنا چاہئیں۔

اول یہ کہ اصل بیماری کیا ہے دوسرے یہ کہ اس بیماری کی وجہ کیا ہے کیوں مرض پیدا ہوا؟ تیسرے یہ کہ اس کا علاج کیا ہے چوتھے یہ کہ اس علاج میں پرہیز کیا ہے۔ اگر ان چار باتوں کو غور کر کے معلوم کر لیا گیا تو سمجھو کہ علاج آسان ہے۔ اس سے پہلے بہت سے لیڈران قوم اور پیشوایان ملک نے

بہت غور کئے اور طرح طرح کے علاج سوچے۔ کسی نے سوچا کہ مسلمانوں کا علاج صرف دولت ہے۔ مال کماؤ ترقی پا جاؤ گے۔ کسی نے کہا اس کا علاج عزت ہے۔ کونسل کے ممبر بنو آرام ہو جائے گا کسی نے کہا کہ تمام بیماریوں کا علاج صرف بیلچہ ہے۔ بیلچہ اٹھاؤ پیرا پار ہو جائے گا۔ ان سب نادان طبیبوں نے کچھ روز بہت شور مچایا۔ مگر مرض بڑھنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ ان کی مثال اس نادان مال کی سی ہے۔ جس کا بچہ پیٹ کے درد سے روتا ہے اور وہ خاموش کرنے کے لئے اس کے منہ میں دودھ دیتی ہے جس سے بچہ کچھ دیر کے لیے بہل جاتا ہے مگر پھر اور بھی زیادہ بیمار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ضرورت تو اس کی تھی کہ بچہ کو مسہل دیکر اس کا معدہ صاف کیا جائے۔ اسی طرح میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک کسی ایڈرنیٹ نے اصل مرض نہ پہچانا اور صحیح علاج اختیار نہ کیا اور جس اللہ کے بندے نے مسلمانوں کو ان کا صحیح علاج بتایا تو مسلم قوم نے اس کا مذاق اڑایا اس پر آواز سے کہے زبان طعنہ و راز کی غرضیکہ صحیح طبیبوں کی آواز پر کان نہ دھرا ہم اس کے متعلق عرض کرنے سے پہلے ایک حکایت عرض کرتے ہیں۔

ایک بوڑھا کسی حکیم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حکیم صاحب امیری نگاہ موٹی ہو گئی ہے حکیم نے کہا بوڑھا پے کی وجہ سے بوڑھا بولا کمر میں درد بھی رہتا ہے حکیم نے جواب دیا بوڑھا پے کی وجہ سے بڑھے نے کہا چلنے میں سانس بھی پھول جاتا ہے جواب ملا کہ بوڑھا پے کی وجہ سے بڑھا بولا حافظہ بھی خراب ہو گیا کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ طبیب نے کہا بوڑھا پے کی وجہ سے بڑھے کو

غصہ آگیا اور بولا کہ اے بیوقوف حکیم! تو نے ساری حکمت میں بڑھاپے کے سوا کچھ نہیں پڑھا۔ حکیم نے کہا کہ بڑھے میاں! آپ کو جو مجھ بے تصور پر بلا وجہ غصہ آگیا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔

بعینہ آج ہمارا بھی یہی حال ہے مسلمانوں کی بادشاہت گئی عزت گئی۔ دولت گئی۔ وقار گیا۔ صرف ایک وجہ سے وہ یہ کہ ہم نے شریعتِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ دی ہماری زندگی اسلامی نہ رہی۔ ہمیں خدا کا خوف، نبی کی شرم، آخرت کا ڈر نہ رہا۔ یہ تمام نحوستیں صرف اسی لیے ہیں اعلیٰ حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں سے

دن لہو میں کھونا تجھے شب نیند بھر سونا تجھے

شرم نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

مسجدیں ہماری ویران۔ مسلمانوں سے سینما و تماشے آباد ہر قسم کے عیوب

مسلمانوں میں موجود۔ ہندوانی رسمیں ہم میں قائم پھر ہم کس طرح عزت پاسکتے ہیں۔ محمد علی جوہر نے خوب کہا ہے سے

بلبل و گل گئے گئے لیکن!

ہم کو غم ہے۔ چمن کے جانے کا!

دنیوی تمام ترقیاں بلبلیں تھیں۔ اور دولت ایمان چمن۔ اگر چمن آباد ہے

ہزار ہا بلبلیں پھر آجائیں گی۔ مگر جب چمن ہی اجڑ گیا تو اب بلبلوں کے آنے کی

کیا امید ہے، مسلمانوں کی اصل بیماری تو شریعتِ مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو

چھوڑنا ہے۔ اب اس کی وجہ سے اور بہت سی بیماریاں پیدا ہو گئیں مسلمانوں

کی صد ہا بیماریاں تین قسم میں منحصر ہیں۔ اول روزانہ نئے نئے مذہبوں کی پیداوار اور ہر آواز پر مسلمانوں کا آنکھیں بند کر کے چل پڑنا۔ دوسرے مسلمانوں کی خانہ جنگیاں اور مقدمہ بازیاں اور آپس کی عداوتیں تیسرے ہمارے جاہل باپ دادوں کی ایجاب کی ہوئی خلاف شرع یا فضول رسمیں ان تین قسم کی بیماریوں نے مسلمانوں کو تباہ کر ڈالا۔ برباد کر دیا۔ گھر سے بے گھر بنا دیا مقروض کر دیا۔ غرضیکہ ذلت کے گڑھے میں دھکیل دیا۔

پہلی بیماری کا علاج صرف یہ ہے کہ مسلمان ایک بات خوب یاد رکھیں وہ یہ کہ کپڑا نیا پہنو۔ مکان نیا بناؤ۔ غذا میں نئی نئی کھاؤ۔ ہر دنیاوی کام نئے نئے کرو۔ مگر دین وہی تیرہ سو برس والا پرانا اختیار کرو۔ ہمارا نبی پرانا دین پرانا قرآن پرانا کعبہ پرانا خدا تعالیٰ پرانا (قدیم) ہم اس پرانی لکیر کے فقیر ہیں یہ کلمات وہ ہیں جو اکثر حضرت قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب مرحوم و معذور پیر طریقت علی پوری فرمایا کرتے تھے اور اس کا پرہیز یہ ہے کہ ہر بد مذہب کی صحبت سے بچو۔ اس مولوی کے پاس بیٹھو جس کے پاس بیٹھنے سے حضور علیہ السلام کا عشق اور اتباع شریعت کا جذبہ پیدا ہو۔ دوسری بیماری کا علاج یہ ہے کہ اکثر فتنہ و فساد کی جڑ و چیزیں ہیں ایک غصہ اور اپنی بڑائی دوسرے حقوق شرعیہ سے غفلت۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں سب سے اونچا ہوں اور سب میرے حقوق ادا کریں مگر میں کسی کا حق ادا نہ کروں اگر ہماری طبیعت میں سے خودی نکل جائے۔ عاجزی اور تواضع پیدا ہو ہم میں سے ہر شخص دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے تو انشاء اللہ



کبھی جنگ و جدال اور مقدمہ بازی کی نوبت ہی نہ آوے۔ فقیر کی یہ تھوڑی سی گفتگو انشا اللہ بہت نفع دے گی بشرطیکہ اس پر عمل کیا جائے۔

تیسری بیماری وہ ہے جس کے علاج کے لیے یہ کتاب لکھی جا رہی ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں بچہ کی پیدائش سے لے کر مرنے تک مختلف موقعوں پر ایسی تباہ کن رسمیں جاری ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی جڑیں کھوکھی کر دی ہیں میں نے خود دیکھا ہے کہ ان کے مرنے جینے شادی بیاہ کی رسموں کی بدولت صد ہا مسلمانوں کی جائدادیں، مکانات و کانیں۔ ہندوؤں کے پاس سووی قرضے میں چلی گئیں۔ اور بہت سے اعلیٰ خاندان کے لوگ آج کرایہ کے مکانوں میں گزر کر رہے ہیں اور ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں ایک نہایت شریف خاندانی رئیس نے اپنے باپ کے چالیسویں کی روٹی کے لیے ایک ہندو سے چار سو روپے قرض لیے جس سے ستائیس سو روپے دے چکے ہیں اور پندرہ سو اور باقی تھے ان کی جائداد بھی قریباً ختم ہو چکی۔ اب وہ زندہ ہیں۔ صاحب اولاد ہیں فاقہ سے گزر کر رہے ہیں اپنی قوم کی اس مصیبت کو دیکھ کر میرا دل بھرا آیا۔ طبیعت میں جوش پیدا ہوا کہ کچھ خدمت کروں۔ روشتائی کے چند قطرے حقیقت میں میرے آنسوؤں کے قطرے ہیں خدا کرے کہ اس سے قوم کی اصلاح ہو جائے۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ بہت سے لوگ ان شادی بیاہ کی رسموں سے بیزار تو ہیں۔ مگر برادری کے طعنوں اور اپنی ناک کٹنے کے خوف سے جس طرح ہو سکتا ہے۔ قرض ادھار لے کر ذبح چاہتے ہیں۔ کوئی ایسا میدان نہیں بنتا۔ جو



بلاخوف ہر ایک کے طعنے برداشت کر کے تمام رسموں پر لات ماروے اور سنت کو زندہ کر کے دکھاوے جو شخص سنت موکدہ کو زندہ کرے اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملتا ہے کیوں کہ شہید تو ایک دفعہ تلوار کا زخم کھا کر مر جاتا ہے مگر یہ اللہ کا بندہ عمر بھر لوگوں کی زبانوں کے زخم کھاتا رہتا ہے واضح رہے کہ مروجہ رسمیں دو قسم کی ہیں ایک تو وہ جو شرعاً ناجائز ہیں دوسری وہ جو تباہ کن ہیں اور بہت دفعہ ان کے پورا کرنے کے لیے مسلمان سودی قرض لیتے ہیں۔ اور سود دینا بھی حرام ہے اور لینا بھی۔ اس لیے یہ رسمیں حرام کام کا ذریعہ ہیں اس رسالہ میں دونوں قسم کی رسموں کا ذکر کیا جائے گا اور بیان کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس رسالے کے علیحدہ علیحدہ باب ہوں گے یعنی پیدائش کی رسموں کا ایک باب پھر بیاہ شادی کی رسموں کا ایک باب پھر موت کی رسموں کا علیحدہ باب وغیرہ وغیرہ ہر رسم کے متعلق تین باتیں عرض کی جاویں گی اول تو مروجہ رسم اور پھر اس کی خرابیاں پھر اس کا مسنون اور جائز طریقہ۔

اس کتاب کا نام اسلّا ہی زندگی رکھتا ہوں اور رب کریم کے کرم سے امید ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں اس کو اسم بامستی بنائے اور قبول فرما کر مسلمانوں کو اس عمل کی توفیق دے میرے لیے اس کو توشہ آخرت اور صدقہ جاریہ بناوے۔ آمین آمین۔

يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ بِجَاهِ رَسُولِكَ الرَّؤُفِ الرَّحِيمِ وَالْإِبْرَةِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

’ناچیز احمد یار خاں نے عمی اور بھائی بدایونی‘

دوم صفر المظفریوم جمعہ مبارک



# پہلا باب

## بچہ کی پیدائش

مروجہ رسمیں :- بچہ کی پیدائش کے موقعہ پر مختلف ملکوں میں مختلف رسمیں ہیں مگر چند رسمیں ایسی ہیں جو تقریباً کسی قدر فرق سے ہر جگہ پائی جاتی ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) لڑکا پیدا ہونے پر عام طور پر زیادہ خوشی کی جاتی ہے۔ اور اگر لڑکی پیدا ہو تو بعض لوگ بجائے خوشی کے رنج و غم محسوس کرتے ہیں۔

(۲) پہلے بچہ پر زیادہ خوشی کی جاتی ہے پھر اور بچوں پر خوشی منائی تو جاتی ہے مگر کم۔

(۳) لڑکا پیدا ہو تو پیدائش کے چھ روز تک عورتیں مل کر ڈھول بجاتی ہیں۔

(۴) پیدائش کے دن لڑویا کوئی مٹھائی اہل قرابت میں تقسیم ہوتی ہے۔

(۵) اس دن میراثی ڈوم دوسرے گانے بجانے والے گھر گھیر لیتے ہیں اور بیہودہ گانے گا کر انعام کے خواستگار ہوتے ہیں۔ منہ مانگی چیز لے کر جاتے ہیں۔

(۶) بہن بہنوں وغیرہ کو جوڑے روپیہ وغیرہ بہت سی رسموں کے ماتحت دیئے جاتے ہیں۔ لٹ دھلائی۔ گوند بنوائی وغیرہ۔

(۷) دلہن کے ماں باپ بھائی کی طرف سے چھوچھک آنا ضروری ہوتا ہے جس



میں کہ دلہا دلہن ساس سسر، تند، تندوانی حتیٰ کہ گھر کے بہشتی بھنگی کے لیے بھی کپڑوں کے جوڑے نقدی اور اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو بچی کے لیے چھوٹا چھوٹا زیور ہونا ضروری ہے غرضیکہ میکہ و سسرال کا دیوالیہ ہو جاتا ہے۔

(۸) مالین اور بھٹیاری گھر کے دروازے پر پتوں کا سہرا یا کاغذ کے پھول باندھتی ہیں جس کے معاوضہ میں ایک جوڑا اور روپیہ کم از کم وصول کرتی ہیں۔

## ان رسوم کی خرابیاں

لڑکی پیدا ہونے سے رنج کرنا کفار کا طریقہ ہے جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے **وَإِذْ بَشَّرْنَا أَحَدَهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مَسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ** بلکہ حق یہ ہے کہ جن عورت کے پہلے لڑکی پیدا ہو، وہ رب تعالیٰ کے فضل سے خوش نصیب ہے کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانہ میں اول دختر ہی پیدا ہوئی تو گویا رب تعالیٰ نے سنت نبی عطا فرمادی جو ان لڑکیوں کا گانا بجانا حرام ہے کیونکہ عورت کی آواز کا بھی نامحرموں سے پردہ ہونا ضروری ہے اگر عورت نماز پڑھ رہی ہو اور کوئی آگے سے گزرنا چاہے تو یہ عورت سبحان اللہ کہہ کر اس کو اطلاع نہ دے بلکہ تالی سے خبر دے جب آواز کی اس قدر پردہ داری ہے تو یہ مردوجہ گانے اور باجے کا کیا پوچھتا۔ فرزند کی پیدائش کی خوشی میں نوافل پڑھنا اور صدقہ خیرات کرنا کارِ ثواب ہے مگر بروری کے ڈر، ناک کٹنے کے خوف سے مٹھائی تقسیم کرنا بالکل بے فائدہ ہے اور اگر



سودی قرضہ لے کر یہ کام کئے تو آخرت کا گناہ بھی ہے۔ اس لئے اس رسم کو بند کرنا چاہیے، ڈوم میراثی لوگوں کو دنیا پر گزرتے جاتے نہیں۔ کیونکہ ان کی ہمدردی کرنا دراصل ان کو گناہ پر دلیر کرنا ہے۔ اگر ان موقعوں پر ان کو کچھ نہ ملے تو یہ تمام لوگ ان حرام پیشوں کو چھوڑ کر حلال کمائی حاصل کریں مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہ تو میں یعنی زنانے (خنثی) ڈوم میراثی، رنڈیاں صرف مسلمان قوم ہی میں ہیں عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ اور پارسی قوموں میں یہ لوگ نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں میں خرافات رسمیں زیادہ ہیں۔ اور ان لوگوں کو انہی رسموں کی وجہ سے پرورش ہوتی ہے اور دیگر قوموں میں نہ یہ رسمیں ہیں۔ نہ اس قسم کے لوگ اور یقیناً ایسی پیشہ ور قومیں مسلم قوم کی پیشانی پر بدناما وارغ ہیں خدا کرے یہ لوگ حلال روزی کما کر گزارہ کریں، بہن بہنوتی یا دیگر اہل قرابت کی خدمت کرنا بے شک کارِ ثواب ہے۔ مگر جب کہ اللہ و رسول علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے کی جائے اگر دنیا کے نام و نمود اور دکھلاوے کے لیے یہ خدمتیں ہوں۔ تو بالکل بے کار ہے دکھلاوے کی نماز بھی بے فائدہ ہوتی ہے اور اس موقع پر کسی کی نیت رشتائے الہی نہیں ہوتی۔ محض رسم کی پابندی اور دکھلاوے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے ورنہ کیا ضرورت ہے کہ چھوٹکے کے آگے باجہ بھی ہو دنیا کو بھی جمع کیا جائے۔ پھر مالدار آدمی اس خرچ کو برداشت کر لیتا ہے مگر غریب مسلمان ان رسموں کو پورا کرنے کے لیے یا تو سودی قرض لیتا ہے یا گھر رہن کرتا ہے لہذا ان تمام مصارف کو بند کرنا نہایت ضروری ہے ہزار ہا موقعوں پر اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو اس لیے دو کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ



علیہ وسلم کا حکم ہے۔ مگر ان رسموں کو مٹا دو۔ زکام روکوتا کہ بخار جائے آج  
یہ حالت ہے کہ اگر بچہ پیدا ہونے پر دو لہن کے میکے سے یہ رسمیں پوری نہ  
کی جاویں تو ساس و نند کے طعنوں سے لڑکی کی زندگی وہاں ہو جاتی ہے اور  
ادھر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ رسمیں مٹ جائیں تو ان لڑائیوں کا  
دردازہ ہی بند ہو جائے۔

## اسلامی رسمیں

بچہ کے پیدا ہونے پر یہ کام کرنے چاہئیں۔ بچہ پیدا ہوتے ہی غسل دیا  
جائے۔ نال کاٹا جائے اور جس قدر جلدی ہو سکے۔ اس کے داہنے کان  
میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے خواہ گھر کا کوئی آدمی ہی اذان اور  
تکبیر کہے یا مسجد کا موذن یا امام کہے اور اگر اذان کہنے پر خیرات و صدقہ  
کی نیت سے ان کی کوئی خدمت کر دی جاوے تو بہت اچھا ہے کیونکہ  
یہ حق تعالیٰ کا شکر یہ ہے پھر یہ کوشش کی جاوے کہ بچہ کو پہلی گھٹی (گڑتی)  
کوئی نیک آدمی دے کیونکہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ بچہ میں پہلی گھٹی دینے  
والے کا اثر آتا ہے اور اس کی سی عادات پیدا ہوتی ہیں بلکہ سنت تو یہ  
ہے کہ بچہ کی تھنیک کر دی جائے تھنیک اسے کہتے ہیں کہ کوئی نیک  
آدمی اپنے منہ میں کھجور یا خرمد چبا کر اپنی زبان سے پتے کے پیٹ میں سب سے  
پہلے جو غذا پہنچے وہ خرمد ہو اور کسی بزرگ کے منہ کا لعاب صحابہ کرام نبی صلی اللہ



علیہ وسلم سے اپنے بچوں کی تھنیک کرایا کرتے تھے۔ دائی کی اجرت مقرر ہونی چاہیے جو اس کام کے بعد دے دی جائے اگر فرزند کی خوشی میں میلاد شریف یا فاتحہ بزرگان کر دی جاوے تو بہت اچھا ہے اس کے سوا تمام رسومات بند کر دی جائیں۔ چھوچھک و بھات کو مٹانا سخت ضروری ہے۔



## دوسرا باب

### عقیقہ اور ختنہ کی مروجہ رسمیں

عام طور پر عقیقہ اور ختنہ کے موقع پر یہ رسمیں ہوتی ہیں بہت سی جگہ عقیقہ کرتے ہی نہیں بلکہ چھٹی کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ بچہ کی پیدائش کے چھٹے دن رات کے وقت عورتیں جمع ہو کر مل کر گاتی بجاتی ہیں پھر زچہ کو کوٹھڑی سے باہر لا کر تارے دکھا کر گاتی ہیں پھر میٹھے چاول تقسیم کئے جاتے ہیں۔ گیت نہایت بیہودہ گائے جاتے ہیں یہ رسم خالص ہندووانی ہے اور جو لوگ عقیقہ کرتے بھی ہیں تو وہ اپنی برادری کے لحاظ سے جانور ذبح کرتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑی برادری والے لوگ چھ سات جانور ذبح کر کے تمام گوشت برادری میں تقسیم کر دیتے ہیں یا پھر تکلیف کھانا پکا کر عام دعوت کرتے ہیں اور یہ بھی مشہور ہے کہ دلہن کا پہلا بچہ میکے میں پیدا ہوا اور عقیقہ وغیرہ کا سارا خرچہ دلہن کے ماں باپ کریں اگر وہ ایسا نہ کریں تو سخت بدنامی ہوتی ہے۔ جب ختنہ کا وقت آتا تو ایسی رسمیں ہوتی ہیں خدا کی پناہ۔ ختنہ سے پہلے رات جگراتا ہوتا ہے۔ جسے خدائی رات کہتے ہیں جن میں سب عورتیں جمع ہو کر رات بھر گانا گاتی ہیں اور گرواے گلگلے پکاتے ہیں پھر فجر کے وقت جوان لڑکیاں اور عورتیں گاتی ہوئی مسجد کو جاتی ہیں وہاں جا کر ان گلگلوں



سے طاق بھرتی ہیں، یعنی گھی کا چراغ اور یہ گلگلے کچھ پیسے طاق میں رکھ کر گاتی ہوئی واپس آتی ہیں یہ رسم بعض جگہ شادی پر بھی ہوتی ہے اور یہ رسم یوپی کی بعض قوموں میں زیادہ ہے مگر ختنہ کے وقت اس کا ہونا ضروری ہے جب ختنہ کا وقت آیا تو قرابت دار جمع ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں ختنہ ہوتا ہے نانی ختنہ کر کے اپنی کٹوری رکھ دیتا ہے۔ جس میں ہر شخص ایک ایک دو، دو یا چار آنہ آٹھ آنے ڈالتا ہے سب مل کر غربا کے یہاں تو پندرہ بیس روپے ہو جاتے ہیں۔ مگر امیروں کے گھر سو دو سو ڈھائی سو روپیہ بنتا ہے پھر بچہ کے والد کی طرف سے برادری کی روٹی ہوتی ہے اور بچہ کے والد اپنی بہنوں بہنوتی و دیگر اہل قرابت کو کپڑوں کے جوڑے دیتا ہے، ادھر بچے کے نانا ماموں کی طرف سے نقدی، روپیہ کپڑوں کے جوڑے لانا ضروری ہوتا ہے۔ اہل قرابت جو نانی کی کٹوری میں پیسے روپے ڈالتے ہیں وہ نیوتا کہلاتا ہے۔ یہ درحقیقت بچے کے والد پر قرض کی طرح ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں کے گھر ختنہ ہو تو یہ بھی اس کے گھر نقدی دے۔

## ان رسموں کی خرابیاں

چھٹی کرنا خالص ہندوؤں کی رسم ہے جو کہ انہوں نے عقیدہ کے مقابلہ میں ایجاد کی ہے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ عورتوں کا گانا بجانا حرام ہے اسی طرح زچہ کو تارے دکھانا محض لغویات ہے پھر گانے والیوں کو میٹھے چاول کھلانا حرام

کام کا بدلہ ہے لہذا یہ چھٹی کی رسم بالکل بند کر دینا ضروری ہے عقیدہ اور ختنہ میں اس قدر خرچہ کرانے کا یہ اثر پڑے گا کہ لوگ خرچہ کے خوف سے یہ سنت ہی چھوڑ دیں گے عقیدہ اور ختنہ کرنا سنت ہے اور سنت عبادت ہے، عبادت کو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اپنی طرف سے اس میں رسمیں داخل کرنا لغو ہے نماز پڑھنا زکوٰۃ دینا حج کرنا عبادت ہے اب اگر کوئی شخص نماز کو گاتا بجاتا ہو اجاوسے اور زکوٰۃ دیتے وقت برادری کی روٹی کو ضروری سمجھے تو یہ محض یہودہ بات ہے میں نے ایک جوان شخص کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرا ختنہ نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے باپ کے پاس برادری کی روٹی کرنے کے لیے روپیہ نہ تھا۔ اس لیے میرا ختنہ نہ ہوا۔ دیکھا ان رسموں کی پابندیوں میں یہ خرابی ہے۔ بچے کا خرچہ باپ کے ذمہ ہے۔ اس کا عقیدہ اور ختنہ باپ کرے یہ پابندی لگا دینا کہ پہلے بچہ کا ختنہ نانا ناموں کریں اسلامی قاعدے کے خلاف ہے اسی طرح برادری کی روٹی اور نانی کو اس قدر چندہ کر کے دینا سخت بری رسم ہے اس کو بند کرنا چاہیے نیوتا بھی بہت بڑی رسم ہے جو غالباً دوسری قوموں سے ہم نے سیکھی ہے اس میں خرابی یہ ہے کہ یہ جھگڑے اور لڑائی کی جڑ ہے وہ اس طرح کہ فرض کر دو کہ ہم نے کسی کے گھر چار موقعوں پر دو دو روپے دیئے ہیں تو ہم بھی حساب لگاتے رہتے ہیں اور وہ بھی جس کو یہ روپیہ پہنچا۔ اب ہمارے گھر کوئی خوشی کا موقع آیا ہم نے اس کو بلایا تو ہماری پوری نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص کم از کم دس روپے ہمارے گھر دے تاکہ آٹھ روپے وہ ادا ہو جائیں اور



دو روپے ہم پر چڑ جائیں ادھر اس کو بھی یہ ہی خیال ہے کہ اگر میرے پاس اتنی رقم ہو تو میں وہاں دعوت کھانے جاؤں ورنہ نہ جاؤں اب اگر اس کے پاس اس وقت روپیہ نہیں تو وہ شرمندگی وجہ سے آتا ہی نہیں اور اگر آیا تو دو چار روپے دے گیا۔ بہر حال ادھر سے شکایت پیدا ہوئی، طعنے بازیاں ہوئیں۔ دل بگڑے بعض لوگ تو قرض لے کر نیوتا ادا کرتے ہیں۔ بولو! یہ خوشی ہے یا اعلان جنگ لوگ کہتے ہیں کہ نیوتا سے ایک شخص کی وقیتہ مدد ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ رسم اچھی ہے مگر دوستو! مدد تو ہو جاتی ہے لیکن دل کیسے برے ہوتے ہیں۔ اور روپیہ کس طرح پھنس جاتا ہے نہ معلوم یہ رسم کب سے شروع ہوئی، باہمی امداد کرنا اور بات ہے۔ لیکن یہ باہمی امداد نہیں۔ اگر باہمی امداد ہوتی تو پھر بدلہ کا تقاضا کیسا؟ لہذا یہ نیوتا کی رسم بالکل بند ہونی چاہیے۔ ہاں اگر قرابت دار کو بطور مدد کچھ دیا جاوے اور اس کے بدلہ کی توقع نہ رکھی جائے تو واقعی مدد ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہدیہ سے محبت بڑھتی ہے اور قرض سے محبت ٹوٹتی ہے۔ اب نیوتا بیہودہ قرض ہو گیا ہے۔

نوٹ ضروری۔ عقیقہ ختنہ شادی، موت ہر وقت ہی نیوتا کی رسم جاری ہے یہ بالکل بند ہونی چاہیے۔

## عقیقہ اور ختنہ کے اسلامی طریقے

طریقہ سنت یہ ہے کہ بچہ کی پیدائش کے ساتویں روز عقیقہ ہو اور اگر نہ ہو سکے

تو پندرہویں دن یا اکیسویں روز یعنی پیدائش کے دن سے ایک دن بیشتر اگر جمعہ کو بچہ پیدا ہوا تو جب بھی عقیقہ جمعرات کو ہو عقیقہ کا حکم یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں ایک سال کی اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ایک سال کی ذبح کر دی جائے۔ عقیقہ کے جانور کی سری نالی کو اور ران دائی کو دی جائے۔ اگر یہ دونوں مسلمان ہوں گوشت کے تین حصے کر دیے جائیں۔ ایک حصہ فقرا کو خیرات کر دیا جائے دوسرا حصہ اہل قرابت میں تقسیم ہو۔ تیسرا حصہ اپنے گھر میں کھایا جائے بہتر یہ ہے کہ عقیقہ کے جانور کی ہڈیاں توڑی نہ جائیں۔ بلکہ جوڑوں سے علیحدہ کر دی جائیں اور گوشت وغیرہ کھا کر ہڈیاں دفن کر دی جائیں۔ ساتویں روز ہی بچہ کا نام بھی رکھا جائے۔ سب سے بہتر ہے محمد۔ مگر جس کا نام محمد ہو۔ اس کو بگاڑ کر نہ پکارا جائے۔ عبداللہ۔ عبدالرحمن اور انبیائے کرام و صحابہ کرام کے نام پر نام رکھنا بھی اچھا ہے۔ عیسیٰ موسیٰ، ابراہیم، اسمعیل، عباس، عمر وغیرہ اور بے معنی نام نہ رکھے جائیں۔ جیسے بدھو، جمعراتی، خیراتی وغیرہ اسی طرح جن ناموں میں فخر ظاہر ہوتا ہو نہ رکھے جائیں۔ جیسے شاہجہان، نواب راجہ، بادشاہ وغیرہ۔ لڑکیوں کے نام قرانسا، جہاں آرا، بیگم وغیرہ نہ رکھو۔ بلکہ ان کے نام فاطمہ آمنہ عائشہ، مریم، زینت، کلثوم وغیرہ رکھو۔ عقیقہ کے وقت جب جانور ذبح ہو تب بچہ کے بال بھی منڈوا دیئے جائیں اور بالوں کو چاندی سے وزن کر کے خیرات کر دی جائے اور سر پر زعفران بھگو کر مل دیا جائے یہ جو مشہور ہے کہ بچہ کے ماں باپ عقیقہ کا گوشت نہ کھا دیں۔ محض غلط ہے عقیقہ والے کو اختیار ہے کہ خواہ کچا گوشت تقسیم کر دے یا پکا کر دعوت کر دے مگر خیال ہے



کہ نام و نمود کو اس میں دخل نہ ہو۔ فقط سنت کی نیت سے ہو، نائی اور قصائی کی اجرت پہلے سے مقرر ہو جو عقیقہ کے بعد دے دی جائے۔ اگر نائی اپنا قدیمی خد گزار ہے۔ تو اس کو زیادہ اجرت دو۔ جس سے اس کا حق ادا ہو جائے اور اگر نہیں تو واجب اجرت دے دو۔ یہ بھی جائز ہے کہ ایک گائے خرید کر چند بچوں کا عقیقہ ایک ہی گائے میں کر دیا جائے۔ یعنی لڑکے کے لئے گائے کے دو ساتویں حصے اور لڑکی کے لئے ایک حصہ یہ بھی جائز ہے کہ اگر قربانی کی گائے میں عقیقہ کا حصہ ڈال دیا جائے۔ کہ لڑکے کے لئے دو حصے اور لڑکی کے لئے ایک حصہ۔

**نوٹ ضروری:** عقیقہ قرض یا واجب نہیں ہے صرف سنت مستحبہ ہے۔ غریب آدمی کو ہرگز جائز نہیں کہ سودی قرض لے کر عقیقہ کرے۔ قرض لیکر تو زکوٰۃ بھی دینا جائز نہیں۔ عقیقہ زکوٰۃ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ میں نے بعض غریب مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ قرض لے کر عقیقہ کرتے ہیں۔ اگر عقیقہ نہ کریں تو بے چاروں کی ناک کٹ جائے۔ وہ بغیر ناک کے رہ جائیں۔ غرض کہ سنت کا خیال نہیں اپنی ناک کا خیال ہے ایسی ناک خدا کرے کٹ ہی جاوے۔

**ختنہ:** اس سنت طریقہ یہ ہے کہ ساتویں برس بچہ کا ختنہ کرا دیا جائے۔ ختنہ کی عمر سات سال سے بارہ برس تک ہے۔ یعنی بارہ برس سے زیادہ دیر لگانا منع ہے (عالمگیری) اور اگر سات سال سے پہلے ختنہ کر دیا گیا۔ جب بھی حرج نہیں۔ بعض لوگ عقیقہ کے ساتھ ہی ختنہ کرنے میں یہ آسانی اور آرام ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت بچہ چلنے پھرنے کے قابل تو ہے نہیں۔ تاکہ زخم بڑھائے۔ اگر ماں کا

دودھ اس پر ڈالا جاتا رہے تو بہت جلد زخم بھر جاتا ہے۔ حنّہ کرنے سے پہلے  
 نائی کی اجرت طے ہونا ضروری ہے۔ جو کہ اس کو حنّہ کے بعد دے دی جائے  
 علاج میں خاص کر نگرانی رکھی جائے۔ تجربہ کا نائی سے حنّہ کرایا جائے اور تجربہ کار  
 آدمی اس کا خیال رکھے۔ حنّہ صرف اس کام کا نام ہے۔ باقی برادری کی روٹی۔  
 بہن بہنوئیوں کے پچاس پچاس جوڑے اور گانے والی عورتوں اور میراثیوں کے  
 اخراجات یہ سب مسلمانوں کی کمزور ناک نے پیدا کر دیئے ہیں۔ یہ سب چیزیں  
 بالکل بند کر دی جائیں۔





## تیسرا باب

# بچوں کی پرورش

پرورش کی مراد سمجھ رہے ہیں۔ عام مسلمانوں میں یہ مشہور ہے کہ لڑکے کو دو سال ماں اپنا دودھ پلانے اور لڑکی کو سوا دو سال یہ بالکل غلط ہے مسلمانوں میں یہ طریقہ ہے کہ بچپن میں اولاد کے اخلاق و آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ غریب لوگ تو اپنے بچوں کو آوارہ لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کو دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ اور ان کی تعلیم کا زمانہ خراب صحبتوں اور کھیل کو دینے میں برباد کر دیتے ہیں۔ وہ بچے یا تو جوان ہو کر بھیک مانگتے پھرتے ہیں یا ذلت کی توکریاں کرتے ہیں۔ یا ڈاکو چور اور بد معاش بن کر اپنی زندگی جیل خانہ میں گزار دیتے ہیں۔ اور مالدار لوگ اپنے بچوں کو شروع سے شوقین مزاج بناتے ہیں انگریزی بال رکھانا۔ فضول خرچ کرنا سکھاتے ہیں۔ ہر وقت بوٹ و سوٹ وغیرہ پہناتے ہیں۔ پھر اپنے ساتھ سینما اور ناچ کی مجلسوں میں انہیں شریک کرتے ہیں۔ جب یہ نونہال کچھ ہوش سنبھالتا ہے تو اس کو کلمہ تک نہ سکھایا۔ کالج یا سکول میں ڈال دیا۔ جہاں زیادہ خرچ کرنا فیشن ایل بنا سکھایا گیا۔ خراب صحبتوں سے صحت اور مذہب دونوں برباد ہو گئے۔ اب جب نونہال کالج سے باہر آئے تو اگر خاطر خواہ نوکری مل گئی تو صاحب بہادر بن گئے کہ نہ ماں کا ادب جانیں نہ باپ کو پہچانیں۔ نہ بیویوں کے حقوق

کی خبر نہ اولاد کی پرورش سے واقف۔ ان کے ذہن میں اعلیٰ ترقی یہ آئی کہ ہم کو  
لوگ انگریز سمجھیں بھلا اپنے کو دوسری قوم میں فنا کر دیتا بھی کوئی ترقی ہے۔ اگر  
کوئی معقول جگہ نہ ملی۔ تو ان بیماروں کو بہت مصیبت پڑتی ہے کیونکہ کالج میں  
خرچ کرنا سیکھا۔ کمانا نہ سیکھا۔ کھلانا نہ سیکھا اپنا کام نوکروں سے کرانا سیکھا  
خود کرنا نہ سیکھا۔

نہ پڑھتے تو سو طرح کھاتے کما کر  
وہ کھوٹے گئے اور تعلیم پا کر

اب یہ لوگ کالج کی سی زندگی گزارنے کے لئے شرف بد معاش ہو جاتے  
ہیں۔ پاجبلی نوٹ بنا کر اپنی زندگی جیل میں گزارتے ہیں، یا ڈاکو بد معاش بنتے ہیں  
راکٹر ڈاکو تعلیم یافتہ گریجویٹ پائے گئے، یہ وہ ہی لوگ ہیں۔

## ان رسموں کی خرابیاں

لڑکی کو سو اور سال دودھ پلانا جائز نہیں لڑکی ہو یا لڑکا دونوں کو دو دو سال  
دودھ پلایا جائے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ  
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ مَا بَاب چاہیں تو دو سال سے پہلے دودھ چھوڑا دیں۔ مگر دو  
سال کے بعد دودھ پلانا منع ہے جو بچے کہ پرورش کے زمانہ میں اچھی صحبتیں نہیں  
پاتے۔ وہ جوان ہو کر ماں باپ کو بہت پریشان کرتے ہیں ہم نے بڑے فیشن ایبل  
صاحبزادوں کے ماں باپ کو دیکھا ہے کہ وہ روتے پھرتے ہیں۔ مفتی صاحب تعویذ  
دو۔ جس سے بچہ کہنا مانے ہمارے قبضے میں آوے۔ مگر دستو! فقط تعویذ سے کام



نہیں چلتا۔ کچھ ٹھیک عمل بھی کرنا چاہیے۔

ایک بڑھے نے اپنے فرزند کو ولایت پڑھنے کے لئے بھیجا۔ جب برخوردار فارغ ہو کر وطن آنے لگا۔ تو بڑھا باپ استقبال کے لئے اسٹیشن پر گیا۔ رط کے لئے گاڑی سے اتر کر باپ سے پوچھا۔ ویل بڑھا تو اچھا ہے؟ اس لائق بیٹے کے دوستوں نے پوچھا کہ صاحب بہادر یہ بڑھا کون ہے؟ فرما نے لگا۔ میرا آشنا ہے۔ بڑھے باپ نے کہا کہ صاحبو! میں صاحب بہادر کا آشنا نہیں۔ بلکہ ان کی والدہ کا آشنا ہوں۔ یہ اس نئی تہذیب کے نتیجے ہیں۔

حضرت مولانا احمد چوہدری رحمۃ اللہ علیہ جو سلطان غازی محی الدین عالمگیر اورنگ زیب علیہ الرحمۃ کے استاد اور شاہجہاں کے یہاں بہت اچھی حیثیت سے ملازم تھے۔ مشہور یہ ہے کہ ایک بار جمعہ کے وقت مولانا کے والد معمولی لباس میں جامع مسجد دہلی میں آئے اس وقت مولانا شاہجہاں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلی صف سے اٹھ کر بھاگے اپنے باپ کی جوتیاں صاف کیں۔ گرد و غبار آپ کے عمامہ سے جھاڑا۔ حوض پر لا کر وضو کرایا۔ اور خاص شاہجہاں کے برابر لا کر بیٹھا دیا اور کہا کہ یہ میرے والد ہیں نماز کے بعد شاہجہاں بادشاہ نے ان سے کہا کہ آپ ٹھہرو، شاہی مہمان بنو انہوں نے جواب دیا کہ میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ میرا بچہ آپ کے یہاں رہ کر مسلمان رہا ہے یا بے دین بن گیا ہے پہچانے گا یا نہیں۔ الحمد للہ بچہ مسلمان

ہے۔

گندم از گندم برد جو ز جو ا  
از مکافات غسل غافل مشو

جیسا بونا ویسا کاٹنا۔

## بچوں کی پرورش کا اسلامی طریقہ

لڑکے اور لڑکی کو دو سال سے زیادہ دودھ نہ پلاؤ۔ جب بچہ کچھ بولنے کے لائق ہو۔ تو اسے اللہ کا نام سکھاؤ پہلے مائیں اللہ اللہ کہہ کر بچوں کو سلاتی تھیں اور اب گھر کے ریڈیو اور گراموفون باجے بجا کر بہلاتی ہیں جب بچہ سمجھ دار ہو جاوے تو اس کے سامنے ایسی حرکت نہ کرو جس سے بچے کے اخلاق خراب ہوں۔ کیونکہ بچوں میں نقل کرنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے۔ جو کچھ ماں باپ کو کرتے دیکھتے ہیں وہ ہی خود بھی کرتے ہیں۔ ان کے سامنے نمازیں پڑھو۔ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اپنے ساتھ مسجدوں میں نماز کے لئے لے جاؤ اور ان کو بزرگوں کے قصے کہانیاں سناؤ۔ بچوں کو کہانیاں سننے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ سبق آموز کہانیاں سن کر اچھی عادتیں پڑیں گی۔ جب اور زیادہ ہوش سنبھالیں تو سب سے پہلے ان کو پانچوں کلمے ایمان مجمل۔ ایمان مفصل، پھر نماز سکھاؤ۔ کسی متقی یا حافظ یا مولوی کے پاس کچھ روز بیٹھا کر قرآن پاک اور اردو کے دینیات کے رسالے ضرور پڑھو اور جس سے بچہ معلوم کرے کہ میں کس درخت کی شاخ اور کس شاخ کا پھل ہوں۔ اور پاکی پلیدی وغیرہ کے احکام یاد کرے اگر حق تعالیٰ نے آپ کو چار پانچ لڑکے دیئے ہیں۔ تو کم از کم ایک لڑکے کو عالم یا حافظ قرآن بناؤ۔ کیونکہ ایک حافظ اپنی تین پشتوں کو اور عالم سات پشتوں کو بخشو اے گا۔ یہ خیال محض غلط ہے کہ عالم دین کو روٹی نہیں ملتی۔ یقین کر لو کہ انگریزی پڑھنے سے تقدیر سے زیادہ نہیں ملتا۔ عربی



پڑھنے سے آدمی بد نصیب نہیں ہو جاتا بلکہ گاوہ ہی جو رزاق نے قسمت میں  
 لکھا ہے۔ بلکہ تجربہ یہ ہے کہ اگر عالم پورا عالم اور صحیح العقیدہ ہو تو بڑے آرام میں  
 رہتا ہے۔ اور جو لوگ اردو کی چند کتابیں دیکھ کر وعظ گوئی کو بھیک کا ذریعہ بنا لیتے  
 ہیں کہ وعظ کہہ کر پیسہ پیسہ مانگنا شروع کر دیا۔ ان کو دیکھ کر عالم دین سے نہ ڈر  
 یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا بچپن آوارگی میں خراب کر دیا ہے۔ اور اب ہنڈ  
 بھکاری ہیں۔ ورنہ علمائے دین کی اب بھی بہت قدر و عزت ہے۔ جب  
 گریجویٹ مارے مارے پھرتے ہیں۔ تو مدرسین علما کی تلاش ہوتی ہے اور  
 نہیں ملتے اپنے لڑکوں کو شوقین مزاج خرچیلہ نہ بناؤ۔ بلکہ ان کو سادگی اور  
 اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا سکھاؤ کرکٹ، ہاکی، فٹ بال سرگز نہ کھیلاؤ۔ کیونکہ  
 یہ کھیل کچھ فائدہ مند نہیں۔ بلکہ ان کو نبوٹ لکڑی کا ہتھ، ڈنڈ، کثرت، کشتی کا فن  
 اگر ممکن ہو تو تلوار چلانا وغیرہ سکھاؤ۔ جن سے تندرستی بھی اچھی رہے اور کچھ ہنر  
 بھی آجائے اور تاش بازی اور تنگ بازی۔ کبوتر بازی، سنیما بازی سے بچوں کو  
 بچاؤ۔ کیونکہ یہ کھیل حرام ہیں۔ بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ بچوں کو علم کے ساتھ کچھ  
 دوسرے ہنر بھی سکھاؤ۔ جن سے بچہ کما کر اپنا پیٹ پال سکے۔ یہ سمجھ لو کہ ہنر مند  
 کبھی خدا کے فضل سے بھوکا نہیں مرتا۔ اس مال و دولت کا کوئی اعتبار نہیں ان  
 باتوں کے ساتھ انگریزی سکھاؤ کالج میں پڑھاؤ۔ جج بناؤ۔ کلکٹر بناؤ ویتا کی ہر جائز  
 ترقی کرو مگر پہلے اس کو ایسا مسلمان کر دو کہ کوٹھی میں بھی مسلمان ہی رہے۔ ہم  
 دیکھا ہے کہ قادیانیوں اور رافضیوں کے بچے گریجویٹ ہو کر کسی عہدے پر پہنچ  
 جائیں مگر اپنے مذہب سے پورے واقف ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے بچے ایسے آلو

ہوتے ہیں کہ مذہب کی ایک بات بھی نہیں جانتے۔ خراب صحبت پا کر بے دین بن جاتے ہیں۔ جس قدر لوگ قادیانی، نیچری وغیرہ بن گئے۔ یہ سب پہلے مسلمان تھے اور مسلمانوں کے بچے تھے۔ مگر اپنی مذہبی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بد مذہبوں کا شکار ہو گئے۔ یقین کرو کہ اس کا وبال ان کے ماں باپ پر بھی ضرور پڑے گا۔

صحابہ کرام کی پرورش بارگاہِ نبوت میں ایسی کامل ہوئی کہ جب وہ میدانِ جنگ میں آتے تو اعلیٰ درجہ کے غازی ہوتے تھے اور مسجد میں آکر اعلیٰ درجہ کے نمازی گھر بار میں پہنچ کر اعلیٰ درجہ کے کاروباری، کچہری میں آکر اعلیٰ درجہ کے قاضی ہوتے تھے اپنے بچوں کو اس تعلیم کا نمونہ بناؤ اگر دین و دنیا میں بھلائی چاہتے ہو تو یہ کتابیں خود بھی مطالعہ میں رکھو۔ اور اپنی بیوی بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ بہارِ شریعت مصنفہ حضرت مولانا امجد علی صاحب کتاب العقائد مصنفہ حضرت مرشدی و استادی مولانا مولوی محمد نعیم الدین صاحب دام ظلہم، شانِ حبیب الرحمن سلطنت مصطفیٰ مصنفہ فقیر حقیقہ پراز تفسیر احمد یار خاں نعیمی۔

لڑکیوں کو کھانا پکانا، سینا، پرونا، اور گھر کے کام کاج، پاکدامنی اور شرم و حیا سکھاؤ کہ یہ لڑکیوں کا ہنر ہے ان کو کالیجیٹ اور گریجویٹ نہ بناؤ کہ لڑکیوں کے لئے اس زمانہ میں کالج اور بازار میں کچھ فرق نہیں بلکہ بازاری عورت کے پاس لوگ جاتے ہیں۔ اور کالج کی لڑکی لوگوں کے پاس جاتی ہے، جس کا دن رات مشاہدہ ہو رہا ہے۔



## چوتھا باب

### بیاد شادی کی رسمیں

ع اب جگر تھام کے پیچھری باری آتی  
 نکاح اسلام میں عبادت ہے۔ کبھی تو فرس سے اور اکثر سنت (شامی) مگر  
 ہندوستان میں موجودہ زمانہ میں نکاح ان ہندوانی اور عام رسموں اور فضول خرچیوں  
 کی وجہ سے وبال جان بن گیا ہے۔ اس کا نام شادی خانہ آبادی۔ اب ان رسموں  
 سے بنادیا شادی خانہ بربادی۔ بلکہ خاتہا بربادی۔ کیونکہ اس میں لڑکے اور لڑکی  
 دونوں کے گھروں کی تباہی آتی ہے۔ نکاح کے متعلق تین قسم کی رسمیں ہیں بعض وہ جو  
 نکاح سے پہلے کی جاتی ہیں بعض نکاح کے وقت اور بعض نکاح کے بعد پہلے تو لڑکی  
 کی تلاش (منگنی) تاریخ مقرر ہونا۔ پھر نکاح کے بعد چوٹھی، چالاکنگنا کھولنے کی رسمیں۔  
 لہذا ہم اس باب کی چند فصلیں کرتے ہیں۔

### پہلی فصل دلہن کی تلاش اور تاریخ طہانا

موجودہ رسمیں :- ہندوستان میں عام طور پر لڑکے والوں کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ  
 مالدار کی لڑکی گھر میں آوے۔ جہاں ہمارے بچے کے خوب ارمان نکلیں۔ اور اس قدر

جہیز لائے کہ گھر بھر جاوے۔ اور لڑکی والوں کی آرزو یہ ہوتی ہے لڑکا مالدار اور شوقین  
 ہو۔ انگریزی بال کٹاتا ہو اور اڑھی منڈاتا ہو۔ تاکہ ہماری لڑکی کو سینما دکھائے۔ اور اس  
 کے ہر جائز ارمان نکالے۔ میں نے بہت مسلمانوں کو کہتے سنا کہ ہم وادھی والے کو  
 اپنی لڑکی نہ دیں گے۔ لڑکا شوقین چاہیے۔ اور بہت جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لڑکی  
 والوں سے دوہا سے مطالبہ کیا۔ کہ وادھی منڈاؤ تو لڑکی دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ  
 لڑکوں نے وادھیاں منڈوائیں۔ کہاں تک دکھ کی باتیں سناؤں۔ یہ بھی کہتے سنا گیا  
 کہ نمازی کو لڑکی نہ دیں گے۔ وہ مسجد کا ملاں ہے ہماری لڑکی کے ارمان اور شوق پور  
 نہ کرے گا۔ پنجاب میں یہ آگ زیادہ لگی ہوئی ہے۔ جب اپنی مرضی کا لڑکا مل گیا۔  
 تو اب خیر سے منگنی رکھائی، کا وقت آیا۔ اس میں دلہن والوں کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ  
 ایسے کپڑوں جو سستے سونے کا زیور چڑھاؤ۔ اس فرمائش کو پورا کرنے کے لئے  
 لڑکے والے اکثر قرض لے کر یا کسی جگہ سے زیور مانگ کر چڑھا دیتے ہیں۔ جب منگنی کا  
 وقت آیا تو لڑکے والا اپنے قرابت داروں کو جمع کر کے اولاً ان کی دعوت اپنے گھر کرنا  
 ہے پھر دلہن کے یہاں ان سب کو لے جاتا ہے۔ جہاں دلہن والوں کے قرابت دار  
 پہلے ہی سے جمع ہوتے ہیں غرض کہ دلہن کے گھر دو قسم کے میلے لگ جاتے ہیں۔ پھر  
 ان کی پر تکلف دعوت ہوتی ہے۔ پو۔ پی میں تو کھانے کی دعوت ہوتی ہے۔ مگر  
 پنجاب میں مٹھائی اور چائے کی دعوت جس میں اس رسم پر دونوں طرف سے چار پانچ سو  
 روپیہ تک خرچ ہو جاتے ہیں۔ پھر دلہن کے یہاں سے لڑکے کو سونے کی انگوٹھی اور  
 کچھ کپڑے ملتے ہیں۔ اور لڑکی کو وہاں والوں کی طرف سے قیمتی جوڑا بھاری ستھرا زیور دیا  
 جاتا ہے پھر منگنی سے ادھی تک ہر عید بقر عید وغیرہ پر کپڑے اور وقتاً فوقتاً موسمی میوہ

رہوٹ) اور مٹھائیاں لڑکے کے گھر سے جانا ضروری ہے۔ تاریخ مٹھانے پر لوگوں کا مجمع دعوت اور مٹھائی تقسیم ہوتی ہے۔ پھر تاریخ مقرر ہونے سے شادی تک دونوں گھروں میں عورتوں کا جمع ہو کر عشقیہ گانے، ڈھول بجانا لازم ہوتا ہے جس میں ہر تیسرے دن مٹھائی ضرور تقسیم ہوتی ہے۔ اس میں بھی کافی خرچہ ہوتا ہے ان تمام رسموں میں بدتر رسم مائیوں اور رماٹیاں، اوٹھن کی رسمیں ہیں۔ جس میں اپنی پرانی عورتیں جمع ہو کر دولہا کے اوٹھن مہندی لگاتی ہیں۔ آپس میں منہسی دل لگی، دولہا سے مذاق وغیرہ بہت بے عزتی کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ میں نے وہ رسمیں عرض کی ہیں جو قریب قریب ہر جگہ کچھ فرق سے ہوتی ہیں اور جو مختلف قسم کی خاص خاص رسمیں جاری ہیں۔ ان کا شما شکل ہے۔

## ان رسموں کی خرابیاں

سخت غلطی یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے مالدار تلاش کیے جاتے ہیں۔ کیونکہ مالدار کی تلاش میں لڑکے اور لڑکیاں جوان جوان بیٹھے رہتے ہیں نہ کوئی خاطر خواہ مالدار ملتا ہے نہ شادیاں ہوتی ہیں۔ اور جوان لڑکی ماں باپ کے لئے پہاڑ ہے اس کو گھر میں بغیر نکاح رکھنا سخت خرابیوں کی جڑ ہے۔ دوسری یہ کہ جو محبت و اخلاق غریبوں میں سے وہ مالداروں میں نہیں۔ تیسرے یہ کہ اگر مالدار کو تم اپنی کھال بھی اتار کر دے۔ ان کی آنکھ میں نہیں آتا یہ طعنے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اور اگر وہ اپنے مالدار ہیں تو داماد مثل نوکر کے کسرال میں رہتے ہیں۔ بیوی پر شوہر کا کوئی رسم نہیں ہوتا۔ اگر دولہا والے مالدار ہیں تو لڑکی اس گھر میں لوٹتی یا نوکرانی کی طرح



ہوتی ہے اپنی لڑکی ایسے گھر دو جہاں وہ لڑکی غنیمت سمجھی جائے۔ تجربہ نے بتایا۔  
 کہ غریب اور شریف گھرانے والی لڑکیاں ان لڑکیوں سے آرام میں ہیں، چچا بھائیوں  
 میں گنتیں۔ لڑکی والوں کو چاہیے کہ دولہا میں تین باتیں دیکھیں۔ اول تو تندرست ہو۔  
 کیونکہ زندگی کی بہار تندرستی سے ہے۔ دوسرے اس کے چال چلن اچھے ہوں۔  
 بدعاش نہ ہو۔ شریف لوگ ہوں۔ تیسرے یہ کہ لڑکا بہتر مندا اور کماؤ ہو کہ کما کر اپنے بیوی  
 بچوں کو پال سکے۔ مالدار کی کوئی اعتبار نہیں۔ یہ چلتی پھرتی چاندنی ہے حدیث پاک  
 میں ہے کہ نکاح میں کوئی مال دیکھتا ہے کوئی جمال۔ مگر عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّيَارِ  
 تم دینداری دیکھو یہ بھی یاد رکھو کہ تین قسم کے مانوں میں برکت نہیں۔ ایک تو زمین کا پیسہ  
 یعنی زمین یا مکان فروخت کر کے کھاؤ۔ اس میں کبھی برکت نہیں چاہیے کہ یا تو زمین  
 نہ فروخت کرو اور اگر فروخت کرو تو اس کا پیسہ زمین ہی میں خرچ کرو (حدیث)

دوسرے لڑکی کا پیسہ یعنی لڑکی والے جو روپیہ لے کر شادی کرتے ہیں۔ اس میں  
 برکت نہیں اور پیسہ لینا حرام ہے۔ کیونکہ یا تو یہ لڑکی کی قیمت ہے یا رشوت یہ  
 دونوں حرام ہیں۔ تیسرے وہ جہیز و مال جو لڑکی اپنے میکے سے لاوے۔ اگر دولہا  
 اس کو گزر اوقات کا ذریعہ بناوے تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اپنی قوت بازو پر  
 بھروسہ کرو و اڑھی اور نماز کا مذاق اڑانے والے سب کافر ہوتے یہ بھی یاد رکھو کہ مولویوں  
 اور دینداروں کی بیویاں فیشن والوں کی بیویوں سے زیادہ آرام میں رہتی ہیں۔ اول تو  
 اس لئے کہ دیندار آدمی خدا کے خوف سے بیوی بچوں کا حق پہچانتا ہے۔ دوسرے  
 یہ کہ دیندار آدمی کی نگاہ صرف اپنی بیوی پر ہی ہوتی ہے۔ اور آزاد لوگوں کی ٹمپری  
 بیویاں بہت سی ہوتی ہیں۔ جن کا دن رات تجربہ ہو رہا ہے۔ وہ ہر مھول کو سونگھتا اور

ہر باغ میں جاتا ہے۔ کچھ دنوں تو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ پھر آنکھ پھیر لیتا ہے۔ منگنی کی رسموں کی خرابیاں بیان سے باہر ہیں۔ بہت سے لوگ سووی قرض سے یا مانگ کر زیور چڑھا دیتے ہیں۔ شادی کے بعد پھر وہاں سے وہ زیور خلیے بہانے سے لے کر واپس کرتے ہیں۔ جس کی وجہ سے آپس میں خوب لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اور شروع کی وہ لڑائی ایسی ہوتی ہے کہ پھر ختم نہیں ہوتی۔ اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ منگنی چھوٹ جاتی ہے پھر وہاں والوں سے زیور واپس مانگا جاتا ہے۔ ادھر سے انکار ہوتا ہے۔ جس پر مقدمہ بازی کی نوبت آتی ہے۔ اسی طرح منگنی کے وقت دعوت اور فضول خرچی کا حال ہے اگر منگنی چھوٹ گئی تو مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارا خرچہ واپس کر دو اور دونوں فریق خوب لڑتے ہیں۔ بعض دفعہ منگنی میں اتنا خرچ ہو جاتا ہے کہ فریقین میں شادی کے خرچ کی ہمت نہیں رہتی۔ پھر کبھی کبھی کپڑوں کے بوڑے اور مٹھائیوں کے خرچ لڑکے والوں کا دیوالیہ نکال دیتا ہے اور شادی کے وقت غور کرتا ہے کہ وہاں والے نے اس قدر چھیر اور زیور وغیرہ دیا نہیں جو میرا خرچ کر چکا ہے اگر لڑکی والے نے اتنا نہ دیا تو لڑکی کی جان سولی پر رہتی ہے کہ تیرے باپ نے ہمارا لے کر رکھا یا دیا گیا؟ اور اگر خوب دیا تو کہتے ہیں کہ لیا دیا۔ ہم سے بھی تو خوب خرچ کر لیا۔ باقی گانے بجانے کی رسموں میں وہ خرابیاں ہیں۔ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ مائیاں اور اپٹن کی رسمیں بہت سے حرام کاموں کا مجموعہ ہیں۔ اس لئے ان تمام رسموں کو بند کرنا ضروری ہے۔

## اسلامی رسمیں

لڑکی کے لئے لڑکا اور لڑکے کے لئے لڑکی ایسی تلاش کی جائے جو شریف اور  
 دیندار ہو۔ تاکہ آپس میں محبت رہے۔ جہاں لڑکے کی مرضی نہ ہو۔ وہاں ہرگز نکاح  
 نہ ہو۔ اسی طرح جہاں لڑکی یا لڑکی کی ماں کی منشا نہ ہو۔ وہاں نکاح کرنا زہرِ قاتل  
 ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی شادیاں کامیاب نہیں ہوتیں۔ اسی لئے شرعاً ضروری  
 ہے کہ لڑکی سے اذن لیتے وقت لڑکے کا نام مع اس کے والد کے اور چہرے بتایا جائے  
 کہ اے بیٹی ہم تیرا نکاح فلاں لڑکے فلاں کے بیٹے سے نکاح کر دیں وہ کہے گا  
 تب نکاح ہوتا ہے۔ یہ اذن لڑکی کی رائے معلوم کرنے کے لئے ہی تو ہے اگر موقع  
 ہو تو لڑکے کو لڑکی پیغام سے پہلے کسی بہانہ سے خفیہ طور پر دکھا دی جائے کہ لڑکی کو یہ  
 خبر نہ ہو (حدیث) بلکہ نکاح سے پیشتر اپنے سارے قرابت داروں کا مشورہ لینا بھی  
 بہتر ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ **وَأْمُرْهُمْ شُرُوعَهُمْ**۔ ایسے نکاح کے  
 سارے قرابت داروں کو وارث ہوجاتے ہیں اور اگر وہاں اور وہاں میں نا اتفاق ہو جائے  
 تو یہ لوگ مل کر اتفاق کی کوشش کرتے ہیں۔ منگنی دراصل نکاح کا وعدہ ہے اگر یہ نہ  
 بھی ہو جب بھی کوئی حرج نہیں۔ لہذا بہتر تو یہ ہے کہ منگنی کی رسم بالکل ختم کر دی جائے  
 اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور سوائے نقصان کے اس سے کچھ فائدہ نہیں غالباً  
 ہم نے یہ رسمیں ہندوؤں سے سیکھی ہیں۔ کیونکہ سوائے ہندوستان کے اور کہیں یہ رسم  
 نہیں ہوتی بلکہ عربی یا فارسی زبانوں میں اس کا کوئی نام بھی نہیں۔ اس کے جتنے نام  
 ملتے ہیں سب ہندی زبان کے ہیں۔ چنانچہ منگنی، سگائی، کرٹائی، ساکھریہ اس کے نام



ہیں۔ اور ان میں سے کوئی بھی عربی فارسی نہیں۔ اور اگر اس کا کرنا ضروری ہی ہو۔ تو اس طرح کر دو کہ پہلے لڑکے والے کے یہاں اس کے قرابت دار جمع ہوں۔ اور وہ ان کی خاطر تو واضح صرف پان اور چائے سے کرے۔ اگر کہیں پان کا رواج نہ ہو جیسے کہ پنجاب تو وہ صرف خالی چائے سے جس کے ساتھ کوئی مٹھائی نہ ہو۔ پھر یہ لوگ اٹھ کر لڑکی والے کے یہاں آجاویں۔ وہ بھی ان کی تو واضح صرف پان یا خالی چائے سے کرے۔ لڑکے والے اپنے ساتھ دو لہن کے لئے ایک سوتی دوپٹہ اور ایک سونے کی تھوڑی تھوڑی (تھوڑی) لائے جو کہ پیش کر دے دو لہن والوں کی طرف سے لڑکے کو ایک سوتی روبال ایک چاندی کی انگوٹھی۔ ایک نگینہ والی پیش کر دی جائے جس کا وزن سو اچار ماشہ سے زیادہ نہ ہو۔ کیونکہ مرد کو ریشم اور سونا پہننا حرام ہے لویہ منگنی ہو گئی۔ اگر دوسرے شہر سے منگنی کرنے والے آئے ہیں۔ تو ان میں سات آدمی سے زیادہ نہ آئیں اور دو لہن والے ہمانی کے لحاظ سے ان کو کھانا کھلا دیں۔ مگر اس کھانے میں دوسرے محلہ والوں کی عام دعوت کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد لڑکے والے جب بھی آئیں تو ان پر مٹھائی اور کپڑوں کے جوڑوں کی پابندی نہ ہو۔ اگر اپنی خوشی سے بچوں کے لئے تھوڑی سی مٹھائی لائیں تو اس کو محلہ میں تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک دوسرے کو بدیہ دو۔ محبت بڑھے گی۔ مگر اس بدیہ کو ٹیکس نہ بنا لو کہ وہ بیچارہ اس کے بغیر آہی نہ سکے۔ تاریخ کا مقرر کرنا بھی اسی سادگی سے ہونا ضروری ہے کہ اگر اسی شہر سے لوگ آ رہے ہیں تو ان کی تو واضح صرف پان یا خالی چائے سے ہو۔ اور اگر دوسرے شہر سے آ رہے ہیں تو پانچ آدمی سے زیادہ نہ ہوں۔ جن کی تو واضح کھانے سے کی جائے اور مقرر کرنے والے سن رسیدہ بزرگ لوگ ہوں اور بہتر یہ ہے کہ شادی

کے لئے جمعہ یا سوموار پیر کا دن مقرر ہو کیونکہ یہ بہت برکت والے دن ہیں۔ پھر تاریخ کے بعد گانے بجانے ڈھول وغیرہ نہ ہوں۔ بلکہ اگر ہو سکے تو سہرے سے دن محفل میلاد کر دیا کریں جس میں نعت خوانی اور درود پاک کی تلاوت ہو ایسے وعظ کئے جائیں۔ جس میں موجودہ رسموں کی برائیاں بیان ہوں۔ مائیں اور اوٹن کی تمام رسمیں بالکل بند کر دی جائیں۔ یعنی اگر دلہن کو ایک جگہ بٹھا دیا جائے۔ یا کہ دو دلہا دلہن کے خوشبو یعنی اوٹن ملا جائے تو کوئی حرج نہیں کہ یہ اوٹن ایک طرح کی خوشبو ہے۔ اور خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ بلکہ شادی کے وقت خوشبو استعمال کرنا صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ لیکن ان کاموں کے ساتھ کے حرام رسمیں گانا بجانا عورتوں مردوں کا غلط ملط ہونا یہودہ مذاق سب بند کر دیئے جائیں۔ غرض کہ دینی اور دنیاوی کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی دین دنیا کی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اس زمانہ میں بعض لوگ دو دلہا کو چاندی کا زیور پہناتے ہیں۔ یا پھری چاقوان کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تاکہ اس کو بھوت نہ چمٹ جائے یہ سب ناجائز رسمیں ہیں۔ اگر دو دلہا پر کسی قسم کا خوف ہے تو صبح شام آیت پڑھ کر خود اپنے پر دم کر لیا کرے۔ بلکہ نمازی آدمی کو کبھی کوئی آسیب بفضلہ تعالیٰ نہیں چھوتا قرآن پاک اچھا نگہبان ہے اس کو اختیار کرو۔

## دوسری فصل نکاح اور خست کی رسمیں

موجودہ رسمیں۔ نکاح کے وقت دو طرح کی رسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ وہ جو دو دلہا کے گھر کی جاتی ہیں۔ اور کچھ وہ جو دلہن کے گھر دو دلہا کے تو یہ ہوتا ہے کہ دو دلہا کو نانی غسل دیتا

ہے۔ وہی کپڑے بدلواتا ہے۔ سرخ رنگ کی گپڑی باندھ کر اس پر نہری گونالپیٹ  
 دیا جاتا ہے۔ پھر اس پر سہرا باندھتا ہے۔ جس میں پھول پتی اور نلکیاں لگی ہوتی ہیں۔  
 نانی یہ کام کر کے ایک تھالی رکھ دیتا ہے۔ جس میں تمام قرابت دار مرد و بیہ پسیہ  
 نچھاور کر کے ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد عورتیں نچھاور کرتی ہیں۔ جو نانی کی بیوی نائن کا  
 حق ہوتا ہے اور آج سے پہلے سائے قرابت دار جمع ہو چکے ہیں۔ جو کھانا کھاتے  
 جاتے ہیں۔ اور نیوتے کے روپے دیئے جاتے ہیں۔ بکھنے والا وہ روپے لکھتا جاتا ہے  
 اس کھانے کا نام برات کی روٹی ہے۔ اس وقت زیادہ قابل رحم دولہا کے نانا ماموں  
 کی حالت ہوتی ہے کیونکہ ان پر ضروری ہے کہ بھارت لے کر آئیں۔ ورنہ ناک کٹ جائیگی  
 اس بھارت کی رسم نے صد ہا گھر برباد کر دیئے بھارت میں ضروری ہے کہ دولہا اور اسکے  
 تمام قرابت داروں کے لئے کپڑے کے جوڑے، کچھ نقدی اور کچھ غلہ لاویں۔ بعض جگہ چالیس  
 پچاس جوڑے تک لانے پڑتے ہیں۔ اگر ایک جوڑا پانچ روپے میں بھی بناؤ تو ڈھائی سو  
 روپے ٹھنڈے ہو گئے۔ خود میں نے ایک دوکاندار کو دیکھا کہ بڑے مزے سے گزر کر رہا  
 تھا۔ بھانجی کی شادی ان پڑی۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ بھات نہ روے یا اپنی جٹھیٹ  
 کے مطابق روے وہ نہ مانا۔ آخر کار اس کی دکان بھات کی نذر ہو گئی اب بہت مصیبت  
 میں ہے۔

بھانجی کے نکاح میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ کپڑوں کے جوڑوں کے سوا بھانجی  
 کو زیور یا برات کی روٹی ماموں کرے۔ غرض کہ ایک شادی میں چار گھروں کی بربادی ہو جاتی  
 ہے۔ جب یہ سب رسمیں ہو چکیں تو اب برات چلی۔ جس کے ساتھ بڑی اور آگے باجا۔  
 بلکہ بعض دفعہ آگے آگے ناچنے والی رتھیاں بھی ہوتی ہیں۔ گولے چلتے جاتے ہیں اکتبازی



میں آگ لگتی جاتی ہے۔ بری اس میوہ (فروت) کو کہتے ہیں جو دولہا کی طرف سے جاتی ہے جس میں شکر ایک من ناریل، مکھانہ وغیرہ میں سیرکچا دودھ وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ دلہن کے گھر یہ چیزیں دی جاتی ہیں۔ جو بعد شادی تقسیم ہوتی ہے جب برات دلہن کے مکان پر پہنچتی۔ تو اول وہاں آتشبازی میں آگ لگائی گئی۔ پھر پھول پتی لٹائی گئی۔ پھر تمام براتیوں کو دلہن کی طرف سے عام دعوت دی گئی۔ پھر نکاح ہوا۔ دولہا مکان میں گیا۔ جہاں پہلے سے عورتوں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ اس موقع پر بڑی پردہ نشین عورتیں بھی دولہا کے سامنے بے تکلف بغیر پردہ آجاتی ہیں۔ گالیاں سے بھرے ہوئے گانے گائے جاتے ہیں۔ سائیاں بہنوتی سے قسم قسم کے مذاق کرتی ہیں حالانکہ سالیوں کا بہنوتی سے پردہ سخت ضروری ہے، میراثن وغیرہ اپنے حقوق وصول کرتی ہیں۔ پھر رخصت کی تیاری ہوتی ہے جہیز دکھایا جاتا ہے۔ جہیز میں تین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو دولہا والوں کے کپڑوں کے جوڑے یعنی دولہا اس کے ماں باپ دادا، داری، نانا، نانی، ماموں، بھائی، چچا، تایا، تائی، بھنگی، بہشتی، نانی، غرضکہ سب کو جوڑے ضرور دیئے جاتے ہیں۔ جن کا مجموعہ بعض جگہ اسی بلکہ نوے جوڑے ہوتے ہیں۔ دوسرے کاٹھ کباڑ یعنی میزیں، کرسیاں، برتن، چار پائیاں وغیرہ تیسرے روز ان سب کی نمائش کے بعد رخصت ہوتی۔ جس میں باہر باجہ کا شور اندر رونے چلانے والوں کا زور ہوتا ہے۔ پاکی میں دلہن سوار آگے دوہا گھوڑے پر سوار پاکی پر سے پیسوں بلکہ پنجاب میں روپوں اور چاندی کے چھلے اور انگوٹھیوں کی بکیر ہوتی ہوئی روانگی ہوتی سجان اللہ کیا پاکیزہ مجلس ہے کہ آگے بھنگیوں اور چماروں کے بچے لوٹنے والوں کا ہجوم پھر باجے والے میراثیوں کی جماعت اور جماعت شرقا پیچھے اگر آنکھ ہو تو ایسی

مجلس میں شرکت بھی معیوب سمجھو۔ کہاں تک بیان کیا جاوے۔ بعض وہ رسمیں ہیں۔ جن کے بیان سے شرم بھی آتی ہے کہ اس کتاب کو غیر مسلم تو میں بھی پڑھیں گی۔ وہ مسلمانوں کے متعلق کیا رائے قائم کریں گی۔ حق یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے ایسے ناخلف اولاد ہوتے کہ ہم نے ان کے نام کو بھی ڈبو دیا۔ آج ایسی واہیات رسمیں بھنگی چاروں میں بھی نہیں جو مسلمانوں میں ہیں۔

## ان رسموں کی خرابیاں

ان رسموں کی خرابیاں میں کیا بیان کروں۔ صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ ان رسموں نے مسلمان مالداروں کو غریب گنگال بنا دیا۔ گھر والوں کو بے گھر کر دیا۔ مسلمانوں کے محلے ہندوؤں کے پاس پہنچ گئے۔ ہر شخص اپنے شہر میں صد ہا مثالیں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اب چند خرابیاں جو موٹی موٹی ہیں۔ عرض کرتا ہوں۔ اول خرابی یہ ہے کہ اس میں مال کی بربادی اور حق تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے  
دوسرے یہ کہ یہ سارے کام اپنے نام کے لئے کئے جاتے ہیں۔ مگر دوستو  
سوائے بدنامی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کھانے والے تو کھانے میں عیب نکالتے  
ہوئے جاتے ہیں کہ اس میں گھی ولایتی تھا۔ نمک زیادہ تھا مرچ اچھی نہ تھی اور  
دوہا والے ہمیشہ شکایت ہی کرتے دیکھے گئے رطکی کے لئے وہاں طعنے ہی طعنے ہوتے  
ہیں۔

لطیفہ: یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے گھر یہ براتی عمدہ عمدہ مزیدار مال کھا کر

جائیں مگر ان کا منہ سیدھا نہیں ہوتا۔ کھانے میں عیب نکالتے ہیں۔ مگر اولیاء اللہ اور پیر مرشدوں کے گھر سوکھی روٹیاں اور وال دلیہ خوشی سے کھا کر تبرک سمجھ کر تعریفیں کرتے ہیں۔ وہ سوکھی روٹیاں اپنے بچوں کو پر دس میں بھیجتے ہیں۔ جا کر دیکھو، اجمیر شریف کا ولیم اور بغداد شریف اور دوسرے آستانوں کی وال روٹیاں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دوستو وجہ صرف یہ ہے کہ یہ کھانے مخلوق کو راضی کرنے کے لئے ہیں اور وہ خشک روٹیاں خالق کے لئے اگر ہم بھی شادی بیاہ کے موقع پر کھانا، بھیرہ وغیرہ فقط سنت نیت سے سنت طریقہ پر کریں تو کبھی کوئی اعتراض ہو سکتا ہی نہیں۔ ہمارے دوست سید محمد عبدالغنی صاحب ہر سال بقر عید کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور پلاؤ پکا کر عام مسلمانوں کی دعوت کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ معزز مسلمان جو کسی کی شادی بیاہ میں بڑے بڑے خرچے سے جاتے ہیں۔ وہ بغیر بلائے یہاں آجاتے ہیں۔ اور اگر آخری ایک اثر بھی پالیتے ہیں تو تبرک سمجھ کر کھاتے ہیں۔ ابھی قریب میں ہی انجمن خدام الصوفیہ کے صدر فضل الہی صاحب پگانوالہ رئیس گجرات نے ولیمہ کی دعوت سنت نیت سے کی نہ کسی کو شکایت پیدا ہوئی اور نہ کسی نے عیب نکالا۔ عرض یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک عیب پوش ہے جس چیز پر ان کا نام کا آجاتے اس کے سبب عیب چھپ جاتے ہیں۔ اگر ہم لوگ ولیمہ کا کھانا سنت کی نیت سے کریں تو اگر وال روٹی بھی مسلمانوں کے سامنے رکھ دیں گے۔ وہ بھی مسلمان برکت کی نیت سے سیر ہو کر کھائیں گے۔

تیسری خرابی ان رسموں میں یہ ہے کہ ان کی وجہ سے شریف غریبوں کی روٹیاں



بیٹھی رہتی ہیں۔ اور مالداروں کی لڑکیاں ٹھکانے لگ جاتی ہیں۔ کیونکہ لوگ اپنے بیٹیوں کا پیغام دہاں ہی لے جاتے ہیں۔ جہاں زیادہ جہیز ملے۔ اگر ہر جگہ کے لئے جہیز مقرر ہو جائے کہ امیر و غریب سب اتنا ہی جہیز وغیرہ دیں۔ تو ہر مسلمان کی لڑکی جلد ٹھکانے لگ جائے۔

چوتھی خرابی یہ ہے کہ ان رسموں کی وجہ سے مسلمانوں کی اپنی اولاد وبال جان معلوم ہوتے لگی۔ کہ اگر کسی کے لڑکی پیدا ہوئی۔ سمجھا کہ یا تو اب میرے مکان کی خبر نہیں یا جائداد و مکان چلی۔ اسی لئے لوگ لڑکی پیدا ہونے پر گھبراتے ہیں یہ ان رسموں کی برکت ہے۔ پانچویں خرابی یہ ہے کہ نکاح سے مقصود ہوتا ہے۔ دو قوموں کا مل جانا یعنی لڑکے والے لڑکی والے کے قرابت دار اور محب بن جاویں۔ اور لڑکی والے لڑکے والے کے اسی لئے اس کا نام نکاح ہے نکاح کے معنی ہیں مل جانا۔ تو یہ نکاح قبیلوں اور جماعتوں کے ملانے والی چیز ہے۔ مثل مشہور ہے۔ کہ نکاح میں لڑکی دے کر لڑکا لیتے ہیں۔ اور لڑکا دے کر لڑکی حاصل کرتے ہیں۔ مگر اب مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ نکاح مال حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جس کے چار فرزند ہو گئے وہ سمجھا کہ میری چار چاند اداں ہو گئیں کہ ان کو بیاہوں گا۔ جہیزوں سے گھر بھروں گا۔ اب جب دوہن خاطر خواہ جہیز نہ لائی۔ لڑائی قائم ہو گئی اور اب عام طور پر نکاح لڑائی کی جڑ بن کر رہ گیا ہے کہ اپنے عزیزوں میں لڑکی دو تو آپس کا پرانا رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ نکاح کو ایک مالی کاروبار سمجھ لیا گیا ہے۔

چھٹی خرابی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے چند اولاد ہیں پہلے کا نکاح تو بہت دھوم دھام سے کیا۔ اس ایک نکاح میں اس کا مصالحو ختم ہو گیا۔ باقی اولاد کے فقط نکاح

ہی ہوتے۔ کوئی رسم ادا نہ ہوئی۔ کیونکہ روپیہ نہ تھا تو اب اس اولاد کو ماں باپ سے شکایت پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے بڑے بھائی میں کیا خوبی تھی جو ہم میں نہ تھی تو باپ اور اولاد میں ایسی بگڑتی ہے کہ خدا کی پناہ؟

ساتویں خرابی یہ ہے کہ لڑکی والوں نے دوہا کے نکاح کے وقت اتنا خرچ کر لیا کہ اس کا مکان بھی رہن ہو گیا۔ بہت قرضہ سر پر سوار ہو گیا۔ اب دوہن صاحبہ جب گھر میں آئیں تو مکان بھی ہاتھ سے گیا اور مصیبت بھی آپڑی۔ تو نام یہ ہوتا ہے یہ دوہن ایسی منحوس آئی کہ اس کے آتے ہی ہمارے گھر کی خیر و برکت اڑ گئی اس سے پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں یہ خبر نہیں کہ بچاری دہن کا قصور نہیں۔ بلکہ تمہاری ان ہندوانی رسموں کی برکت ہے۔

آٹھویں خرابی یہ ہے کہ ان رسموں کو پورا کرنے کے لئے غریب لوگ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی فکر کرنے لگتے ہیں۔ جوں جوں اولاد جوان ہوتی ہے۔ ان کی فکریں بڑھتی جاتی ہیں۔ اب نہ روٹی اچھی معلوم ہوتی ہے نہ پانی فکریہ ہوتی ہے کہ کسی صورت سے روپیہ جمع کر دو، کہ یہ رسمیں پوری ہوں اب روپیہ جمع کر رہے۔ اس روپیہ میں زکوٰۃ بھی واجب ہے اور حج بھی فرض ہو جاتا ہے وہ نہیں ادا کرتے۔ کیونکہ اگر ان عبادات میں یہ روپیہ خرچ ہو گیا۔ تو وہ شیطانی رسمیں کس طرح پوری ہوں گی۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ ان کے پاس تقریباً دو ہزار روپیہ تھا میں نے کہا آپ پر حج فرض ہے۔ حج کو جاؤ فرمانے لگے کہ بڑا حج تو لڑکی کی شادی اور اس کا بھیز ہے میں نے کہا شادی کے اخراجات جو اپنی قوم نے بنا لئے ہیں۔ وہ فرض نہیں ہیں۔ اور حج فرض ہے۔ فرمانے لگے۔ کچھ بھی ہونا کہ تو نہیں کٹوائی جاتی۔ آخر حج نہ کیا۔ لڑکی کی شادی میں گلچھڑے

اڑائے آپ نے بہت مالداروں کو دیکھا ہوگا کہ جج ان کو نصیب نہیں ہوتا لگاتار شادیوں سے ہی انہیں چھٹکارا نہیں ملتا۔ ادھر تو جوہر کیسے کریں یہ بھی خیال رہے کہ جج کرنا ہر اس شخص کا فرض ہے۔ جس کے پاس مکہ معظمہ جانے آنے کا کرایہ اور باقی مصارف ہوں یہ جو مشہور ہے کہ بڑھاپے میں جج کو غلط ہے کیا خبر کہ بڑھاپا ہم کو لے گا یا نہیں اور یہ مال رہے گا یا نہیں۔

نویں خرابی یہ ہے کہ غریب لوگ لڑکی کے بچپن ہی سے کپڑے جمع کرنے شروع کرتے ہیں۔ کیونکہ اتنے بوڑھے وہ ایک دم نہیں بنا سکتے۔ جب تک لڑکی جوان ہوتی ہے کپڑے گل جاتے ہیں۔ انہیں گلے ہوئے کپڑوں کے بوڑھے بنا کر دیتے ہیں۔ جب وہ پہننے جاتے ہیں تو دو دن میں پھٹ جاتے ہیں۔ جس سے پہننے والے گالیاں دیتے ہیں کہ ایسے کپڑے دینے کی کیا ضرورت تھی؟

دسویں خرابی یہ ہے کہ دلہن والے مصیبت اٹھا کر پیسہ برباد کر کے کاٹھ کباڑ یعنی میز و کرسیاں، سہریاں لڑکی کو دے تو دیتے ہیں۔ مگر وہ ناکاھر اتنا تنگ اور چھوٹا ہوتا ہے کہ وہاں رکھنے کو جگہ نہیں اور اگر وہاں میاں کرایہ کے مکان میں رہتے ہیں۔ تو جب دو چار دفعہ مکان بدلنا پڑتا ہے تو یہ تمام کاٹھ کباڑ ٹوٹ پھوٹ کر ضائع ہو جاتا ہے۔ جتنے روپے کا جہیز دیا گیا۔ اگر اتنا روپیہ نقد دیا جاتا۔ یا اس روپیہ کی کوئی دکان یا مکان لڑکی کو دے دیا جاتا تو لڑکی کے کام آتا اور اس کی اولاد عمر بھر آپ کو دعائیں دیتی اور لڑکی کی بھی سسرال میں عزت ہوتی اور اگر خدانہ کرے کہ کبھی لڑکی پر کوئی مصیبت آتی تو اس کے کرایہ سے اپنا برا وقت نکال لیتی۔



## مسلمانوں کے کچھ بہانے

جب یہ خرابیاں مسلمانوں کو بتائی جاتی ہیں۔ تو ان کو چند قسم کے عذر ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صاحب ہم کیا کریں۔ ہماری عورتیں اور لڑکے نہیں مانتے۔ ہم ان کی وجہ سے مجبور ہیں۔ یہ عذر محض بیکار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ادھی مرضی خود مردوں کی بھی ہوتی ہے۔ تب ان کی عورتیں اور لڑکے اشارہ یا نرمی پا کر ضد کرتے ہیں۔ ورنہ ممکن نہیں کہ ہمارے گھر میں ہماری مرضی کے بغیر کوئی کام ہو جائے۔ اگر ہانڈی میں نمک زیادہ ہو جائے تو عورت بیچاری کی شامت اور اگر اولاد یا بیوی کسی وقت نماز نہ پڑھے تو بالکل پردا ہی نہیں۔ جان لو کہ حق تعالیٰ نیت سے خیر دار ہے بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ آگے آگے فرزند کی برات مع ناچ باجے کے جا رہی ہے اور پیچھے پیچھے یہ حضرت بھی لاسول پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کیا کریں بچہ نہیں مانتا یقیناً یہ لاسول خوشی کی ہے۔ حضرت سعدی علیہ الرحمۃ اللہ نے کیا خوب فرمایا ہے

کہ لاسول گویند شادی کناں

دوسرے پنجاب میں یہ قانون ہے کہ ماں باپ کے مال سے لڑکی میراث نہیں پاتی لکھتی باپ کے بعد سارا مال جائداد، مکانات سب کچھ لڑکے کا ہے۔ لڑکی ایک پائی کی حق دار نہیں۔ بہانہ یہ کرتے ہیں کہ ہم لڑکی کی میراث کے بدلہ اس کی شادی دھوم دھام سے کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! اپنے نام کے لئے روپیہ حرام کاموں میں برباد کر دے اور لڑکی کے حصے سے کاٹو۔ کیوں جناب؟ آپ جو لڑکے کی شادی اور اس کی پڑھائی

لکھائی پر جو روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ بی۔ اے۔ ایم۔ اے کی ڈگری دلواتے ہیں کیا وہ  
 بھی فرزند کے میراث سے کاٹتے ہیں ہرگز نہیں۔ پھر یہ عذر کیسا یہ محض دھوکہ دینا ہے۔  
 تیسرے یہ کہ ہم کو علمائے کرام نے یہ باتیں بتائی ہی نہیں۔ اس لئے کہ ہم لوگ  
 اس سے غافل رہے۔ اب جبکہ یہ رسوم چل پڑیں۔ لہذا ان کا بند ہونا مشکل ہے۔  
 لیکن یہ بہانہ بھی غلط ہے علمائے اہل سنت نے اس کے متعلق کتابیں لکھیں مسلمانوں  
 نے قبول نہ کیا چنانچہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ نے ایک  
 کتاب لکھی۔ جلی الصوت جس میں صاف صاف فرمایا کہ میت کی روٹی امیروں کے  
 لئے کھانا حرام ہے صرف غریب لوگ کھائیں ایک کتاب لکھی کھادی الناس الی  
 احکام الاعمال میں جس میں شادی بیاہ کی مروجہ رسموں کی برائیاں بتائیں اور شرعی  
 رسمیں بیان فرمائیں ایک کتاب لکھی مروجہ النجاء جس میں ثابت فرمایا کہ سوچند  
 موقعوں کے باقی جبکہ عورت کو گھر سے نکلنا حرام ہے اور بھی علمائے اہلسنت نے  
 ان باتوں کے متعلق بہت کتابیں لکھیں۔ افسوس کہ اپنا قصور علماء کے سرگاتے ہو۔  
 چوتھا بہانہ یہ کرتے ہیں کہ اگر شادی بیاہوں میں یہ رسمیں نہ ہوں تو ہمارے  
 گھر لوگ جمع نہ ہوں گے جس سے شادی میں رونق نہ ہوگی۔ مگر یہ بھی فقط وہم و دھوکا ہے  
 حق یہ ہے کہ شادی و نکاح میں شرکت اگر سنت کی نیت سے ہو تو عبادت ہے اب تک  
 ہمارے نکاحوں میں لوگ تماشائی بن کر یا کھانے کے لئے آتے ہیں۔ جس کا کچھ ثواب  
 نہیں پاتے اور پھر انشاء اللہ عبادت کی نیت سے آیا کریں گے جیسے اب لوگ عید کی  
 نماز کے لئے عید گاہ میں جاتے ہیں تب انشاء اللہ رونق ہی کچھ اور ہوگی اور بہار ہی  
 کچھ اور آوے گی۔ ابھی یہاں گجرات میں بھائی فضل الہی صاحب کے گھر ایسی ہی

سیدھی سادی شادی ہوئی۔ اس قدر مجمع تھا کہ میں نے آج تک کسی برات میں ایسا مجمع نہ دیکھا بہت سے مسلمان تو وضو کر کے درود شریف پڑھتے ہوئے اس سارے جلوس میں شریک ہوئے۔

پانچواں بہانہ یہ کرتے ہیں کہ لوگ ہم پر طعنہ کریں گے کہ خرچ کم کرنے کے لئے یہ رسمیں بند کی ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ماتم کی مجلس ہے یہاں ناچ نہیں باجہ نہیں۔ گویا تیجہ پڑھا جا رہا ہے۔ یہ عذر بھی بیکار ہے۔ ایک سنت کو زندہ کرنے میں سو شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ کیا یہ ثواب مفت مل جائے گا۔ لوگوں کے طعنے عوام کے مذاق اقل اقل برداشت کرنے پڑیں گے اور دوستو اب بھی لوگ طعنے دینے سے کب باز آتے ہیں۔ کوئی کھانے کا مذاق اڑاتا ہے کوئی چہیز کا کوئی اور طرح کی شکایت کرتا ہے فرضاً لوگوں کے طعنے سے کوئی کسی وقت نہیں بچ سکتا۔ لوگوں نے تو خدا تعالیٰ اور اس کے رسولوں کو عیب لگائے اور طعنے دیئے تم ان کی زبان سے کس طرح بچ سکتے ہو۔ یہ بھی یاد رکھو کہ پہلے تو کچھ مشکل پڑے گی۔ مگر بعد میں انشاء اللہ وہ ہی طعنے دینے والے لوگ تم کو دعا میں دیں گے۔ اور غریب و غربا کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ اور حضور علیہ السلام بھی راضی ہوں گے اور مسلمان بھی مضبوطی سے قائم رہنا شرط ہے۔

## بیہ شادی کی اسلامی رسمیں

سب سے بہتر تو یہ ہوگا کہ اپنی اولاد کے نکاح کے لئے حضرت خاتون جنت شاہزادی اسلام خاتمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح پاک کو نمونہ بناؤ اور



یقین کرو کہ ہماری اولاد ان کے قدم پاک پر قربان رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور یہ بھی سمجھ لو کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوتی کہ میری نعتِ جگر کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو۔ اور صحابہ کرام سے اس کے لئے چندہ (نیوتا) وغیرہ کے لئے حکم فرمایا جاتا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خزانہ موجود تھا۔ جو ایک ایک جنگ کے لئے نو نو سو اونٹ اور نو نو سو اشرافیاں حاضر کر دیتے تھے۔ لیکن چونکہ منشا یہ تھا کہ قیامت تک یہ شادی مسلمانوں کے لئے نمونہ بن جائے۔ اس لئے نہایت سادگی سے یہ اسلامی رسم ادا کی گئی۔ لہذا مسلمانوں۔ اولاً تو اپنی بیاہ بارت سے ساری حرام رسمیں نکال ڈالو، باجے آتشبازی، عورتوں کے گاتے، میراثی ٹوہم وغیرہ کے گیت رنڈیوں کے ناچ، عورتوں، مردوں کا میل جول پھول پتی کا لٹانا ایک دم اللہ کا نام لے کر مٹا دو اب رہی فضول خرچی کی رسمیں ان کو یا تو بند ہی کر دو اگر بند نہ کر سکو تو ان کے لئے ایسی حد مقرر کر دو۔ جس سے فضول خرچی نہ رہے اور گھر کی بربادی نہ ہو جنہیں امیر و غریب سب بے تکلف پورا کر سکیں۔ لہذا ہماری رائے یہ ہے کہ اس طریقے سے نکاح کی رسم ادا ہونی چاہیے۔

بھات (نان کی چھک) کی رسم بالکل بند کر دی جائے اگر دولہا، دولہن کا ناموں نانا کچھ امداد کرنا چاہیں۔ تو رسم بنا کر نہ کریں۔ بلکہ محض اس لئے کہ قربت داروں کی مدد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس لئے بجائے کپڑوں کے نقد روپیہ دے دیں جو کہ پچیس روپیہ سے زیادہ ہرگز نہ ہوں۔ یعنی کم تو ہوں۔ مگر اس سے زیادہ نہ ہوں اور یہ امداد تنفیہ کی جاوے۔ دکھلاوے کو اس میں دخل نہ ہوتا کہ رسم نہ بن جائے۔ دولہا، دولہن نکاح سے پہلے اوٹن یا خوشبو کا استعمال کریں۔ مگر ہندی اور تیل لگاتے اور اوٹن کی رسم بند کر دی

جائے یعنی گانا باجوہ عورتوں کا جمع ہونا بند کر دو۔ اب اگر برات شہر کی شہر میں ہے تو ظہر کی نماز پڑھ کر برات کا جمع دوہا کے گھر جمع ہو اور دوہن والے لوگ دوہن کے گھر جمع ہوں۔ دوہن کے یہاں اس وقت نعت خوانی یا وعظ یا درود شریف کی مجلس گرم ہو۔ ادھر دوہا کو اچھا عمدہ سہرا باندھ کر یا پیدل یا گھوڑے پر سوار کر کے اس طرح برات کا جلوس روانہ ہو۔ آگے آگے عمدہ نعت خوانی ہوتی جاوے۔ تمام بازاروں میں یہ جلوس نکالا جاوے۔ جب یہ برات دوہن کے گھر پہنچے تو دوہن والے اس برات کو کسی قسم کی روٹی یا کھانا ہرگز نہ دیں۔ کیونکہ حضرت زہرا کے نکاح میں حضور علیہ السلام نے کوئی کھانا نہ دیا۔ غرض کہ لڑکی والے کے گھر کھانا نہ ہو۔ بلکہ پان یا خالی چائے سے تواضع کر دی جائے۔ پھر عمدہ طریقہ سے خطبہ نکاح پڑھ کر نکاح ہو جائے۔ اگر نکاح مسجد میں ہو تو اور بھی اچھا ہے نکاح کا مسجد میں ہونا مستحب ہے اور اگر لڑکی کے گھر ہو تب بھی کوئی حرج نہیں۔ نکاح ہوتے ہی براتی لوگ واپس ہو جائیں یہ تمام کام عصر سے پہلے ہو جاویں اور بعد مغرب کو دوہن کو رخصت کر دیا جائے خواہ رخصت ٹانگہ میں ہو یا ڈولی وغیرہ میں۔ مگر اس پر کسی قسم کا نچھاور اور بکھیر بالکل نہ ہو کہ بکھیر کرنے میں پیسے کم ہو جائے ہیں۔ ماں نکاح کے وقت خرمنے لٹانا سنت ہے اور اگر نکاح کے وقت دوچار گولے چلا دیئے جائیں یا اعلان کی نیت سے جہاں نکاح ہوا ہے وہاں ہی کوئی تقارہ یا نوبت اس طرح بغیر گت کے پیٹ دی جاوے جیسے سحری کے وقت اٹھانے کے لئے رمضان شریف میں پیٹی جاتی ہے تو بھی بہت اچھا ہے یہ ہی ضرب دت کے معنے ہیں۔

جہیز کے لئے بھی کوئی حد ہونی چاہیے۔ کہ جس کی سہرا میر وغریب پابندی کرے۔

امیر لوگ اور موقعہ پر اپنی لڑکیوں کو جو چاہیں دیں۔ مگر جہیز وہ دیں جو مقرر ہو گیا یا و رکھو کہ اگر تم جہیز سے دو لہا کا گھر بھی بھر دو گے تو بھی تمہارا نام نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بعض جگہ بھنگی چاروں نے اتنا جہیز دے دیا ہے کہ مسلمان بڑے مالدار بھی نہیں دے سکتے۔ چنانچہ چند سال گزرے کہ اگر سے میں ایک چمار نے اپنی لڑکی کو اتنا جہیز دیا کہ وہ برت کے ساتھ جلوس کی شکل میں ایک میل میں تھا۔ اس کی نگرانی کے لئے پولیس بلانی پڑی جب اس سے کہا گیا کہ اتنا جہیز رکھنے کے لئے دو لہا کے پاس مکان نہیں ہے تو فوراً چھ چھ ہزار یعنی بارہ ہزار روپے کے مکان خرید کر دو لہا کو دے دیئے چنانچہ اب ہم نے خود دیکھا کہ جو مسلمان اپنی جائداد و مکان فروخت کر کے اچھا جہیز دیتے ہیں تو دیکھنے والے اس چمار کے جہیز کا ذکر شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی وہ چمار جہیز کا ریکارڈ توڑ گیا۔ اس مسلمان بیچارے کا نام نہ تعریف لہذا اے مسلمانو! ہوش کرو۔ اس ناموری کی لالچ میں اپنے گھر کو آگ نہ لگاؤ یا درکھو کہ نام اور عزت تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ لہذا جو جہیز ہم عرض کرتے ہیں اس سے زیادہ ہرگز نہ دو۔

برتن ۱۱ عدد، چار پائی درمیانی ایک عدد، لحاف ایک عدد، تو شک (دکھلا) ایک عدد، تکیہ ایک عدد، چار ایک عدد، دہن کو جوڑے چار عدد جس میں دو عدد سوتی ہوں اور دو ریشمی۔ دو لہا کو جوڑے دو عدد، دو لہا کے والد کو جوڑا ایک عدد، دو لہا کی ماں کو جوڑا ایک عدد، مصلی (جام نماز) ایک عدد، قرآن شریف مع رہل ایک عدد، زیور بقدر تمہت مگر اس میں بھی زیادتی نہ کرو۔ اگر ہو سکے تو اس کے علاوہ نقد روپیہ لڑکی کے نام میں جمع کرو اور اگر تم کو اللہ نے دیا ہے تو لڑکی کو کوئی مکان، دوکان، جائدادی شکل میں خریدو لڑکی



کے نام رجسٹری ہو۔ یہ بھی یاد رکھو کہ تمام لڑکیوں میں برابری ہونا ضروری ہے لہذا اگر نقدی روپیہ یا جائیداد ایک کو دی ہے تو سب کو دوورنہ گنہگار ہو گئے۔ جو اولاد میں برابری نہ رکھے حدیث شریف میں اس کو ظالم کہا گیا ہے اور اپنی لڑکیوں کو سکھا دو کہ اگر انکی سانس یا نند طعنہ دیں تو وہ جواب دیں کہ میں سنت طریقہ اور حضرت خاتون جنت کی غلامی میں تمہارے گھرائی ہوں۔ اگر تم نے مجھ پر طعنہ کیا تو تمہارا یہ طعنہ مجھ پر نہ ہوگا بلکہ اسلام اور بانی اسلام علیہ السلام پر ہوگا۔ سانس نند بھی خوب یاد رکھیں کہ اگر انہوں نے یہ جواب سن کر بھی زبان نہ روکی۔ تو ان کے ایمان کا خطرہ ہے۔

لطیفہ :- حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا۔ کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ اپنی بیٹی کو جہیز میں ہر چیز دوں گا۔ اب کیا کروں کہ قسم پوری ہو۔ کیونکہ ہر چیز تو بادشاہ بھی نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ تو اپنی لڑکی کو جہیز میں قرآن شریف دے دے کیونکہ قرآن شریف میں ہر چیز ہے اور اور آیت پڑھو (روح البیان) پارہ گیارہواں سورہ یونس کی پہلی آیت وَلَا تَطِئُوْا لَآيٰٓآئِیْنَ اِلَّا فِیْٓ اٰیٰتِیْ نَاظِرِیْنَ ط

لہذا لڑکیوں اور ان کی سانس نندوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس نے قرآن شریف جہیز میں دے دیا اس نے سب کچھ دے دیا کیا چکی چوہا اور دنیا کی چیز قرآن شریف سے بڑھ کر ہیں۔

اور اگر برات دوسرے شہر سے آئی ہے تو برات میں آنے والے آدمی مرد اور عورت ۲۵ سے زیادہ نہ ہوں اور ان مہمانوں کو لڑکی والا کھانا کھلائے مگر یہ کھانا مہمانی کے حق کا ہوگا نہ کہ برات کی روٹی۔ اسی طرح دوہن والے کے گھر جو اپنی بلوری

اور بستی کی عام دعوت ہوتی ہے۔ وہ بالکل بند کر دی جاتے۔ ہاں باہر کے جہان اور  
برات کے منتظمین ضرور کھانا کھاتے۔ مقصود صرف یہ ہے کہ دوہن کے گھر عام برادری  
کی دعوت نہ ہو کہ یہ بلاوجہ کا بوجھ ہے۔ جہاں تک ہو سکے لڑکی ولے کا بوجھ ہلکا کر دو۔  
جب دوہن خیر سے گھر پہنچے۔ تو رخصت کے دوسرے دن یعنی سب عروسی  
کی صبح کو دوہن کے گھر دعوتِ ولیمہ ہونی چاہیے۔ یہ دعوت اپنی حیثیت کے مطابق ہو کہ  
یہ سنت ہے مگر اس کی دھوم دھام کے لئے سووی قرضہ نہ لیا جائے اور مالداروں  
کے ساتھ کچھ غریب اور مساکین کو بھی اس دعوت میں بلایا جائے یاد رکھو کہ جس شادی میں  
خرچہ کم ہوگا۔ انشاء اللہ وہ شادی بڑی مبارک اور دوہن بڑی خوش نصیب ہوگی  
ہم نے دیکھا کہ زیادہ جہیز لے جانے والی لڑکیاں سسرال میں تکلیف سے رہیں اور  
کم جہیز لانے والیاں بڑے آرام سے گزارا کر رہی ہیں۔

ہم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی اور ان کا جہیز اور ان  
کی خانگی زندگی شریف نظم میں لکھی ہے۔ اور آپ کو سنائیں سنو اور عبرت پکڑو۔

شہزادی اسلام ماں کو دار السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا  
کا نکاح

گوشِ دل سے مومنوں کو ذرا ۶ ہے یہ قصہ فاطمہ کے عقد کا !  
پندرہ سالہ نبی کی لاڈلی ۶ اور تھی بائیس سال عمر علیؑ  
عقد کا پیغام جیہد نے دیا ۶ مصطفیٰ نے مہرجاً اہل کہا

پیر کا دن سترہ ماہ رجب ۴  
 پھر مدینہ میں ہوا اعلان عام ۴  
 اس خبر سے شیرازہ پا ہو گیا ۴  
 آج ہے مولے کی دختر کا نکاح ۴  
 آج ہے اس پاک و سچی کا نکاح ۴  
 خیر سے جب وقت آیا طہر کا ۴  
 ایک جانب ہیں ابو بکر و عمر ۴  
 بہر طرف اصحاب اور انصار ہیں ۴  
 سامنے نوشہ علی مرتضیٰ ۴  
 آج گویا عرش آیا ہے اتر ۴  
 جمع جب یہ سارا جمع ہو گیا ۴  
 جب ہوئے خطبے سے فارغ مصطفیٰ ۴  
 چار سو مثقال چاندی مہر تھا ۴  
 بعد میں خرمنے لٹائے لاکلام ۴  
 ان کے حق میں پھر وفائے خیر کی ۴  
 گھر سے رخصت جس گھر دی نہ ہر ایڑی ۴  
 دی تسلی احمد مختار نے ۴  
 فاطمہ بہر طرح سے بالا ہو تم ۴  
 باپ تیرا ہے امام الانبیاء ۴  
 دوسرا سن ہجرت شاہ عرب ۴  
 ظہر کے وقت آئیں سارے خاص و عام ۴  
 کوچہ و بازار میں غل سا مچا ۴  
 آج ہے اس نیک اختر کا نکاح ۴  
 آج ہے بے ماں کی بچی کا نکاح ۴  
 مسجد نبوی میں مجمع ہو گیا ۴  
 اک طرف عثمان بھی ہیں جلوہ گر ۴  
 درمیان میں احمد مختار ہیں ۴  
 حیدر کرار شاہ لاقٹی ۴  
 یا کہ قدسی آگئے ہیں فرش پر ۴  
 سید الکونین نے خطبہ پڑھا ۴  
 عقد زہرا کا علی سے کر دیا ۴  
 وزن جس کا ڈیرھ سو تولہ ہوا ۴  
 ماسواہ اس کے نہ تھا کوئی طعام ۴  
 اور ہر اک نے مبارکباد دی ۴  
 والدہ کی یاد میں رونے لگیں ۴  
 اور فرمایا شبہ ابرار نے ۴  
 میکہ و کسبل میں اعلیٰ ہو تم ۴  
 اور شوہر اولیا کے پیشوا! ۴



ماہ ذی الحجہ میں جب رخصت ہوئی ۴ تب علی کے گھر میں ایک دعوت ہوئی  
 جس میں تھیں دس سیزو کی روٹیاں ۴ کچھ پنیر اور تھوڑے خرے میگیماں  
 اس ضیافت کا ولیمہ نام ہے ۴ اور یہ دعوت سنت اسلام ہے  
 سب کو ان کی راہ چلنا چاہیے ۴ اور بڑی رسموں سے بچنا چاہیے

## جہیز

فاطمہ زہرا کا جس دن عقد تھا ۴ سن لو ان کے ساتھ کیا کیا نقد تھا  
 ایک چادر سترہ پیوند کی ۴ مصطفیٰ نے اپنی دختر کو جو دی  
 ایک تو شک جن کا چہرے کا غلات ۴ ایک تکیہ ایک ایسا ہی لحاف  
 جس کے اندر اون نہ ریشم روئی ۴ بلکہ اس میں چھال خرے کی بھری  
 ایک چکی پینے کے واسطے ۴ ایک مشکیزہ تھا پانی کے لئے  
 ایک لکڑی کا پیالہ ساتھ میں ۴ نقری کنگن کی جوڑی ہاتھ میں  
 اور گلے میں ہار ہاتھی دانت کا ۴ ایک جوڑا بھی کھڑاؤں کا دیا  
 شاہزادی سیدالکوین کی ۴ بے سواری ہی علی کے گھر گئی  
 واسطے جن کے بنے دونوں جہاں ۴ انکے گھر تھیں سیدھی سادی شایاں  
 اس جہیز پاک پر لاکھوں سلام ۴ صاحب لولاک پر لاکھوں سلام

## شاہزادی کوین کی زندگی

اٹیں جب خاتون جنت اپنے گھر ۴ پڑ گئے سب کام ان کی ذات پر

کام سے کپڑے بھی کاٹے پڑ گئے • ہاتھ میں اچھی سے چھالے پڑ گئے  
 دی خبر زہرا کو اسدا اللہ نے • بانٹے ہیں قیدی رسول اللہ نے  
 ایک لونڈی بھی اگر ہم کو ملے • اس مصیبت سے تمہیں راحت ملے  
 سن کے زہرا آئیں صدیقہ کے گھر • تاکہ دیکھیں ہاتھ کے چھالے پر  
 پرزنتھے دولت کردہ میں شاہ دیں • والدہ سے عرض کر کے آگئیں  
 گھر میں جب آئے حلیب کبریا • والدہ نے ماجرہ سارا کہا  
 قاطم چھالے دکھانے آئی تھیں • گھر کی تکلیفیں سنانے آئی تھیں  
 آپ کو گھر میں نہ پایا شاہ دیں • مجھ سے سب دکھ درد اپنا کہتیں  
 ایک خادم آپ اگر ان کو بھی دیں • چکی اور چولہے کے وہ دکھ سے بچیں  
 شب کو آئے مصطفیٰ زہرا کے گھر • اور کہا دختر سے اے جان پدر  
 میں یہ خادم ان یتیموں کے لئے • باپ جن کے جنگ میں مارے گئے  
 تم پر سایہ ہے رسول اللہ کا • آسرا رکھو فقط اللہ کا  
 ہم تمہیں تسلیج اک ایسی بتائیں • آپ جس سے خادموں کو بھول جائیں  
 اولاً سبحان ۳۳ بار ہو • اور پھر الحمد اتنی ہی پڑھو  
 اور ۳۴ بار ہو تکبیر بھی • تاکہ نشو ہو جائیں یہ مل کر بھی  
 پڑھ لیا کرنا سے ہر صبح و شام • درد میں رکھنا اسے اپنے دام  
 غلڈ کی مختار راضی ہو گئیں • سن کے یہ گفتار خوش خوش ہو گئیں  
 سالک ان کی راہ جو کوئی چلے  
 دین دنیا کی مصیبت سے بچے

ہدایت اور نکاح کے بعد کبھی شوہر بیوی میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے شوہر عورت کی صورت سے بیزار ہوتا ہے اور عورت شوہر کے نام سے گھبراتی ہے۔ جس میں کبھی تو قصور عورت کا ہوتا ہے۔ کبھی مرد کا۔ مرد تو دوسرا نکاح کر لیتا ہے اور اپنی زندگی آرام سے گزارتا ہے۔ مگر بے چاری عورت ہی نہیں بلکہ اس کے میکے والوں تک کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے جس کا دن رات تجربہ ہو رہا ہے۔ لڑکی والے رورہے ہیں۔ کبھی مرو غائب یا دیوانہ پاگل ہو جاتا ہے۔ جس کی طلاق کا شرعاً اعتبار نہیں۔ اب عورت بے بس ہے غیر مسلم تو میں مسلمانوں پر طعن دیتی ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر ظلم اور مردوں کو بے جا آزادی ہے اس کا علاج عورتوں نے تو یہ سوچا کہ وہ مرد سے طلاق حاصل کرنے کے لئے مرتد ہونے لگیں۔ یعنی کچھ روز کے لئے عیسائی یا آریہ وغیرہ بن گئیں۔ پھر دوبارہ اسلام لا کر دوسرے نکاح میں چلی گئیں یہ علاج خطرناک ہے اور غلط بھی کیونکہ اس میں مسلم قوم کے دامن پر نہایت بدنامی لگتا ہے اور بہت سی عورتیں پھر اسلام میں واپس نہیں آئیں۔ جی مثالیں میرے سامنے موجود ہیں۔ نیز عورت بے ایمان بن جانے سے پہلا نکاح ٹوٹتا بھی نہیں۔ بلکہ قائم رہتا ہے بعض لیڈران قوم نے اس کا یہ علاج سوچا کہ نسخ نکاح کا قانون بنوایا۔ لیکن اس قانون سے بھی شرعاً نکاح نہیں ٹوٹتا۔ طلاق شوہر دے تب ہی ہو سکتی ہے بعض عقلمند لوگوں نے یہ تدبیر سوچی کہ بڑے بڑے مہر بند ہوائے پچاس ہزار ایک لاکھ روپیہ یا اپنی لڑکیوں کے نام دوہا سے مکان یا جائداد لکھوائی۔ مگر یہ علاج بھی مفید ثابت نہ ہوا۔ کیونکہ اتنے بڑے مہر کے وصول کرنے کے لئے عورت کے پاس کافی روپیہ چاہیے اور بہت دفعہ ایسا

ہوا کہ مقدمہ چلا۔ شوہر نے ادائے مہر کے چھوٹے گواہ کھڑے کر دیئے کہ میں نے مہر دے دیا ہے یا اس نے معاف کر دیا ہے اس کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ اگر کوئی مکان وغیرہ نام کر لیا۔ تو بھی بیکار کیونکہ جب مرد عورت سے آنکھ پھیر لیتا ہے۔ تو پھر مکان یا تھوڑی زمین کی پردہ نہیں کرتا۔ اگر وہ مکان چھوڑ بیٹھے۔ تو کیا عورت مکان چاٹے گی۔ ایسے ہی اگر شوہر سے کچھ ماہوار تنخواہ لکھوالی۔ تو اولاً تو وصول کرنا مشکل اگر شوہر غائب ہو گیا یا وہ غریب آدمی ہے تو کس طرح ادا کرے اور اگر تنخواہ ملتی بھی رہی۔ تو جوانی کی عمر کیوں کر گزارے۔ دو ستویہ سارے علاج غلط ہیں۔ اس کا صرف ایک علاج ہے وہ یہ کہ نکاح کے وقت کاہن نامہ شوہر سے لکھو لیا جائے گا کہ یہ نامہ یہ ہے کہ ایک تحریر لکھی جائے جس میں شوہر کی طرف سے لکھا ہو کہ اگر میں لاپتہ ہو جاؤں یا اس بیوی کی موجودگی میں دوسرا نکاح کر کے اس پر ظلم کروں یا اس کے حقوق شرعی ادا نہ کروں وغیرہ وغیرہ تو اس عورت کو طلاق بائنہ لینے کا حق ہے۔ لیکن یہ تحریر نکاح کے ایجاب و قبول کے بعد کرائی جائے یا نکاح خواں قاضی ایجاب تو مرد کی طرف سے کرے اور عورت اس شرط پر قبول کرے کہ مجھ کو فلاں فلاں صورت میں طلاق لینے کا حق ہوگا۔ اور مختار پھر انشا اللہ شوہر کسی قسم کی بدسلوکی نہ کر سکے گا۔ اور اگر کرے تو عورت خود طلاق لے کر مرد سے آزاد ہو سکے گی۔ اس میں شرعاً کچھ حرج نہیں اور یہ علاج بہت مفید ثابت ہوا۔ اس سے یہ مقصود نہیں ہے کہ مسلمانوں کے گھر بگڑیں۔ بلکہ میں یہ چاہتا ہوں۔ کہ بگڑنے سے بچیں مرد اس طرح عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے باز رہیں۔

**دوسری ہدایت**۔ پنجاب اور کاٹھیادار میں طلاق کا بہت رواج ہے



معمولی سی باتوں پر تین طلاقیں دے دیتے ہیں اور ہندو محرموں سے طلاق نامہ لکھواتے ہیں۔ جو اسلامی مسائل سے بالکل جاہل ہیں۔ پھر بعد میں پچھتا کر مفتی صاحب کے پاس روتے ہوئے آتے ہیں کہ مولوی صاحب خدا کے لئے کوئی صورت نکالو کہ میری بیوی پھر نکاح میں آجائے میں چونکہ فتوؤں کا کام کرتا ہوں اس لئے مجھے ان واقعات سے بہت سابقہ پڑتا رہتا ہے۔ پھر بیان یہ بتاتے ہیں کہ غصہ میں ایسا ہو گیا۔ دوستو! طلاق غصہ میں ہی دی جاتی ہے۔ خوشی میں کون دیتا ہے پھر یہ حیلہ کرتے ہیں کہ وہابیوں سے مسئلہ لکھواتے ہیں۔ کہ ایک دم تین طلاقیں ایک طلاق ہوتی ہے۔ اس میں رجوع جائز ہے۔ دوستو یہ حیلہ بیان بالکل بے کار ہے۔ اگر تم وہابی کیا عیسائی آریہ سے بھی لکھوا لاؤ کہ طلاق نہ ہوئی۔ کیا اس سے شرعی حکم بدل جائے گا ہرگز نہیں اس کی تحقیق کہ طلاقیں ایک ہوتی ہیں یا نہیں۔ ہمارے فتاویٰ میں دیکھو۔ جس میں اس مسئلہ کی پوری تحقیق کر دی گئی ہے اور مسلم کی حدیث سے جو دھوکا دیا جاتا ہے اسکو بھی صاف کر دیا گیا ہے، لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ اول تو طلاق کا نام ہی نہ لو۔ یہ بہت بری چیز ہے۔ اَبْغَضُ الْمُبَاحَاتِ الطَّلَاقُ۔ اگر ایسا کرنا ہی ہو تو صرف ایک طلاق دو تا کہ اگر بعد کو اور دوبارہ نکاح کی گنجائش رہے اور ہمیشہ طلاق نامہ مسلمان واقف کا محرر یا کسی عالم دین کی رائے سے لکھاؤ۔

## تیسری فصل نکاح کے بعد کی رسمیں

مروجہ رسمیں :- شادی کے بعد بھی مختلف قسم کی رسمیں قریب قریب ہر جگہ موجود ہیں۔ لیکن نکاح کے بعد کی رسموں میں یورپی کا علاوہ سب ملکوں سے آگے بڑھا ہوا ہے

یوپی میں تین طرح کی رسمیں جاری ہیں۔ ایک چوتھی دوسری گنگنا اور سہرا کھونے کی رسم تیسری کھیر کی رسم۔ چوتھی کو یہ ہوتا ہے کہ رخصت کے دوسرے دن دوہن کے میکے سے تیس یا پالیس آدمی یا کچھ کم و بیش چوتھی لوٹانے کے لئے دوہا کے گھر جاتے ہیں۔ جہاں ان کی پر تکلف دعوت ہوتی ہے کھانا کھا کر میٹھے چاولوں کے تھال میں اپنی حیثیت سے زیادہ روپیہ رکھتے ہیں۔ یہ روپیہ بھی دوہن والوں کی طرف سے چندہ ہو کر بطور نیو تاج جمع ہوتا ہے بعض بعض جگہ اس وقت تھال میں سویا اور سویا کچھ زیادہ روپیہ ڈالتے جاتے ہیں۔ پھر لڑکی کو اپنے ہمراہ لے آتے ہیں چوتھے دن دوہا کی طرف سے کچھ عورتیں اور کچھ مرد دوہن کے میکے جاتے ہیں اپنے ساتھ سبز ترکاریاں آلو، بیگن وغیرہ اور کچھ مٹھائی جس میں لٹو ضرور ہوں لے جاتے ہیں۔ وہاں کی تواضع خاطر کے لئے پتی پتی کھیر تیار ہوتی ہے۔ ایک ٹوٹی کرسی پر کھیر کی تھالی بھری ہوئی رکھ کر اوپر سے سفید چادر ڈال دیتے ہیں۔ دوہا کو بیٹھنے کے لئے وہ کرسی پیش کی جاتی ہے دوہا میاں بے خبر اس پر بیٹھتا ہے۔ بیٹھتے ہی تمام کپڑے کھیر میں خراب ہو جاتے ہیں اور منہسی اڑتی ہے پھر دوہن والے دوہا والوں کے کپڑے اور منہ خوب اچھی طرح خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنا بچاؤ کرتے ہیں۔ اس میں خوب دل لگی رہتی ہے۔ جب اس شیطانی رسم سے نجات ہوئی تب کھانا کھلایا۔ بعد نماز ظہر ایک چوکی پر دوہن دوہا آمنے سامنے بیٹھے وہ لٹو جو دوہا کی طرف سے لائے گئے ہیں اس پاس پھکوائے گئے یعنی دوہانے دوہن کی طرف بھینکا اور دوہن نے دوہا کی طرف جب سات چکر پورے ہو گئے تب وہ طوفان بدقیزی برپا ہوتا ہے۔ کہ شیطان بھی دم دبا کر بھاگ جائے۔ وہ ترکاریاں اور آلو، شلغم، بیگن وغیرہ جو دوہا والے ساتھ

لائے تھے اب ان کے دو حصے کئے جاتے ہیں۔ ایک حصہ دو لہا والوں کا اور دوسرا  
 حصہ دو لہن والوں کا پھر ایک دوسرے کو اس سے مار لگاتے ہیں اس کے بعد جو اور ترقی  
 ہوتی ہے وہ بیان کے قابل نہیں یہ تو چوتھی ہوتی اب آگے چلئے جب دو لہن کو واپس  
 سسرال لے گئے۔ تب گنگنا کھونٹنے کی رسم ادا ہوئی۔ وہ اس طرح کہ دو لہن سے  
 گنگنا کھلوا یا گیا۔ ادھر سے دو لہانے اس کی گانٹھیں سخت کر رکھی ہیں۔ ادھر سے  
 دو لہن کی پوری کوشش ہے کہ اس کو کھول ڈالے جب یہ مشکل تمام کھولا جا چکا تب  
 آپس میں ایک دوسرے پر بانی پھینکا اور اس میں بڑا برہہ مانا جاتا ہے جو کسی شریف  
 آدمی کو دھوکے سے بلا کر سن کو بھگودے اور جب وہ خفا ہو تو ادھر سے توشی میں تالیان  
 بجیں، سہرا کھونٹنے کی یہ رسم ہے کہ جب سہرا کھولا گیا تو کسی قریب کے دریا میں اور اگر  
 دریا موجود نہ ہو تو کسی تالاب میں اگر تالاب بھی نہ تو کسی غیر آباد کنوئیں میں ڈال دیا جائے۔  
 مگر یہ سہرا اگر ڈالنے کے لئے عورتیں جائیں تو گاتی بجاتی ہوتی اور واپس ہوں تو گاتی بجاتی  
 ہوتی اور اگر مرد جا کر ڈالیں تو پڑھے لکھے تو ویسے ہی پھینک آتے ہیں۔ اور جاہل لوگ  
 دریا کو سلام کر کے اس میں ڈالتے ہیں۔ پھر کچھ میٹھے چاول پکا کر خواجہ خضر کی فاتحہ تیار ہوتی  
 ہے۔ لیجئے جناب آج ان رسموں نے پھیلا چھوڑا۔

**ان رسموں کی خرابیاں** :- یہ رسمیں ساری ہندووانی ہیں۔ جس میں عورتوں کو  
 اختلاط یعنی میل جول ہے۔ یہ بھی حرام اور کھیر اور ترکاریوں کی بربادی ہے یہ بھی حرام  
 مسلمانوں کے کپڑے خراب کر کے ان کو تکلیف پہنچانی یہ بھی حرام پھر چوتھی میں ایک  
 دوسرے کی مرمت کرنا ایذا دینا یہ بھی حرام کہ اس میں دل شکنی بھی ہے اور سر شکنی بھی دریا  
 کو اور پانی کو سلام کرنا یہ بھی حرام بلکہ مشرکوں کا کام ہے۔ گانا بجانا یہ بھی حرام ہے۔

ان کی اصلاح :- ان رسموں کی اصلاح یہ ہے کہ ازاول تا آخر یہ تمام رسمیں بالکل بند کر دی جائیں۔ بعض جگہ یہ بھی رواج ہے کہ دلہن سسرال میں کام نہیں کرتی اور جب پہلا کام کرتی ہے تو اس سے پوریاں پکوا کر تقسیم کرائی جاتی ہیں یہ بھی بالکل فضول ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں اگر اس وقت برکت کے لئے اس کے ہاتھ کا پہلا کھانا پکوا کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کر دی جاوے تاکہ برکت ہے تو بہت ہی اچھا ہے۔

**ضروری ہدایات :-** سسرال کی لڑائیاں چند وجہ سے ہوتی ہیں۔ کبھی تو دلہن تیز زبان اور گستاخ ہوتی ہے۔ ساس نند کو سخت جواب دیتی ہے اس لئے لڑائی ہوتی ہے کبھی شوہر کی چیزوں کو حقیر جانتی ہے اور وہاں اپنے میکے کی لڑائی کرتی رہتی ہے کہ میرے باپ کے گھر یہ تھا وہ تھا کبھی ساس نندیں دلہن کے ماں باپ کو اس کی موجودگی میں برا بھلا کہتی ہیں جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ کبھی سسرال کے کام سے جی چراتی ہے۔ کیونکہ میکے میں کام کرنے کی عادت نہ تھی۔ کبھی میکے بھیننے پر جھگڑا ہوتا ہے کہ دلہن کہتی ہے کہ میں میکے جاؤں گی۔ سسرال والے نہیں بھینتے۔ پھر دلہن اپنی تکلیفیں اپنے میکے والوں سے جا کر کہتی ہے۔ تو وہ اس کی طرف سے لڑائی کرتے ہیں۔ یہ ایسی آگ لگتی ہے کہ بھائے نہیں بھتی۔ کبھی ساس نندیں بلا وجہ دلہن پر بدگمانی کرتی ہیں۔ کہ ہماری دلہن چیزوں کی چوری کر کے میکے پہنچاتی ہے یہ وہ شکایات ہیں جنکی وجہ سے ہمارے یہاں خانہ جنگیاں رہتی ہیں اور ان شکایات کی جوڑیہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق سے بے خبر ہیں۔ دلہن کو نہیں معلوم کہ مجھ پر شوہر اور ساس کے کیا حق ہیں اور ساس اور شوہر کو نہیں خبر کہ ہم پر دلہن کے کیا حق ہیں۔ ساسوں اور شوہروں کو یہ خیال چاہیے کہ نئی دلہن ایک قسم کی چڑیا ہے جو ابھی ابھی قفس (پنجرے) میں پھنسی ہے تو پھر پھرتی



بھی ہے اور بھاگنے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ مگر شکاری اور پالنے والا اس کو کھانے  
 پانی کا لالچ دے کر پیار کر کے بہلاتا اور اس کے دل لگانے کی کوشش کرتا ہے  
 پھر آہستہ آہستہ اس کا دل لگ جاتا ہے اسی طرح ساس نندوں اور شوہروں کو چاہئے  
 کہ اس کے ساتھ ایسا اچھا برتاؤ کریں کہ وہ جلدان سے ہل مل جائے۔ دوستو چاروں  
 توقیر کے بھی بھاری ہوتے ہیں اور خیال رکھو کہ لڑکی سب کچھ سن سکتی ہے مگر اپنے  
 ماں باپ بہن بھائی کی برائی نہیں سن سکتی اس کے سامنے اس کے ماں باپ کو ہرگز  
 بڑا نہ کہو۔ یہ عیو ابوہل کا فرزند عکرمہ رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم  
 نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ عکرمہ کے سامنے کوئی بھی ان کے باپ ابوہل کو برا نہ کہے (مروج  
 النبوة) یہ کیوں تھا۔ صرف اس لئے کہ ہر شخص کی فطری عادت ہے کہ اپنے ماں باپ  
 کی برائی نہ سن سکے۔ اگر لڑکی کو کسی کام کاج میں مہارت نہ ہو تو آہستگی سے سکھائیں  
 غرض کہ اس کے ساتھ وہ سلوک کریں جو اپنی اولاد سے کرتے ہیں یا اپنی بیٹی کے لئے ہم  
 خود چاہتے ہیں وہ بھی تو کسی کی بچی ہے۔ جو چیز اپنی بچی کے لئے گوارا نہ کرو۔ وہ دوسرے  
 کی بچی سے بھی گوارا نہ کرو اور کسی پر بلا وجہ بدگمانی کرنا حرام ہے اس بدگمانی نے صد ہا  
 گھروں کو تباہ کر ڈالا۔ دلہنوں کو چاہئے کہ اس کا خیال رکھیں کہ زبان شیریں سے ملک  
 گیری ہوتی ہے۔ نرم زبان سے انسان جانوروں کو قبضے میں کر لیتا ہے یہ ساس نندیں  
 تو پھر انسان ہیں۔ خیال رکھو کہ قدرت نے پکڑنے کے لئے دو ہاتھ چلنے کے لئے دو پاؤں  
 دیکھنے کے لئے دو آنکھیں اور سننے کے لئے دو کان دیئے مگر بولنے کے لئے زبان صرف  
 ایک ہی دی جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بولو کم مگر کام زیادہ کرو۔ اگر تم اپنے ماں باپ  
 کی بڑائی سب کو بتلاتی پھر تو بیکار ہے لطف تو جب ہے کہ تمہاری رفتار گفتار خوش خلقی

کام دھندا اچھے اخلاق ایسے ہوں کہ سانس تنہا اور شوہر یا کہ بہرہ دیکھنے والا تم کو دیکھ کر تمہارے ماں باپ کی تعریف کریں کہ دیکھو تو لڑکی کو کیسی عمدہ تعلیم، ترتیب دی۔ سسرال میں کیسی ہی لڑائی ہو جاوے ماں باپ کو ہرگز اس کی خبر نہ کرو۔ اگر کوئی بات تمہاری مرضی کے خلاف بھی ہو جائے۔ تو صبر سے کام لو۔ کچھ دنوں میں یہ سانس سسرندیں اور شوہر سب تمہاری مرضی پر چلیں گے۔ ہم نے وہ لائق شریف لڑکیاں بھی دیکھی ہیں۔۔۔۔۔ جنہوں نے سسرال میں پہلے کچھ دشواری اٹھائی پھر اپنے اپنے اخلاق سے سسرال والوں کو ایسا گرویدہ بنا لیا کہ انہوں نے سارے کے سارے اختیار دوہن کو دے دیئے اور کہنے لگے کہ بیٹی گھر بار تو جانتے ہم کو تو دو وقت جو تیراجی چاہے پکا کر دے دیا کرو اور خیال رہے کہ تمہارے شوہر کی رضا میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اور اے شوہر و اتم یاد رکھو کہ دنیا میں انسان کے چار باپ ہوتے ہیں ایک تو نسبتی باپ دوسرے اپنا سسر تیسرے اپنا استاد چوتھے اپنا پیر۔ اگر تم نے اپنے سسر کو برا کہا تو سمجھ لو کہ اپنے باپ کو برا کہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ بہت کامیاب شخص وہ ہے جس کی بیوی بچے اس سے راضی ہوں۔ خیال رکھو کہ تمہاری بیوی نے صرف تمہاری وجہ سے اپنے سارے میکے کو چھوڑا۔ بلکہ بعض صورتوں میں دیس چھوڑ کر تمہارے ساتھ پروسی بنی اگر تم بھی اس کو آنکھیں دکھاؤ تو وہ کس کی ہو کر ہے تمہارے ذمہ ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے سب کے حق ہیں کسی کے حق ہیں کسی کے حق کے ادا کرنے میں غفلت نہ کرو اور گوشش کرو کہ دنیا سے بندوں کے حق کا بوجھ اپنے پر نہ لے جاؤ۔ خدا کے تو ہم سب گنہگار ہیں۔

مگر مخلوق کے گنہگار نہ بنیں، حق تعالیٰ میرے ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں تاثیر دے اور مسلمانوں کے گھروں میں اتفاق پیدا فرما دے۔ اور جو کوئی اس رسالے سے فائدہ اٹھائے وہ مجھ فقیر کے لئے دعائے مغفرت اور حسنِ خاتمہ کرے۔

دوباتیں اور بھی یاد رکھو۔ ایک تو یہ کہ جیسا تم اپنے ماں باپ سے سلوک کرو گے۔ ویسا ہی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ سلوک کرے گی۔ جیسا کہ تم دوسرے کی اولاد کے ساتھ سلوک کرو گے۔ ویسا ہی دوسرے تمہاری اولاد سے سلوک کریں گے۔ یعنی اگر تم اپنے ساس سسر کو گالیاں دو گے تمہارے داماد تم کو دیں گے۔ دوسرے یہ کہ حدیث شریف میں ہے کہ قرابت داروں سے سلوک کرنے سے عمر اور مال بڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک معلوم کرنے کے لئے حضور پاک کی سوانح عمریاں پڑھیں۔ جن سے پتہ لگے کہ اہل قرابت کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔

## پانچواں باب

### محرم شہادت عیدِ بقرہ کی رسمیں

مروجہ رسمیں۔ ہمارے ملک میں ان مبارک مہینوں میں حسب ذیل رسمیں ہوتی ہیں۔ محرم کے پہلے دس دن اور خاص کر دسویں محرم یعنی عاشورہ کا دن کھیل کود۔ تماشہ اور میلوں کا زمانہ سمجھا گیا ہے۔ کاٹھیا واڑ میں اس زمانہ میں تعزیہ داری کے ساتھ کتے۔ گدھے۔ بندر کی سی صورتیں بنا کر مسلمان تعزیوں کے آگے کودتے ہوتے

نکلنے میں اور سبیلوں کی خوب زیبائش کرتے ہیں اور شرابیں پی پی کر چوکاروں میں کھڑے ہو کر ماتم کے بہانے سے کودتے ہیں اور یوپی میں مسلمان ان دس دنوں میں برابر رافضیوں کی مجلسوں میں مرثیے سننے اور مٹھائی لینے پہنچ جاتے ہیں۔ پھر آٹھویں تاریخ کو علم اور نوین تاریخ کو تعزیوں کی گشت اور سوئیں کو تعزیوں کا جلوس خود بھی نکالتے ہیں اور رافضیوں کے تعزیوں کے جلوس میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ بعض جاہل لوگ ماتم بھی کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ پھر بارہویں محرم کو تعزیوں کا تیجہ اور ۲۰ صفر کو تعزیوں کا چالیسواں نکالا جاتا ہے جس میں چند طرح کے جلوس نکلتے ہیں۔ صفر کے آخری بدھ کو مسلمانوں کے گھر پوزیاں پکائی جاتی ہیں خوشی منائی جاتی ہے اور کاٹھیا واڑ میں لوگ عصر کے بعد ثواب کی نیت سے خشک میں تفریح کرنے جاتے ہیں اور یوپی میں بعض جگہ اس دن پرانی مٹی کے برتن پھوڑ کر نئے خریدتے ہیں یہ تمام باتیں اس لئے ہوتی ہیں کہ مسلمانوں میں مشہور یہ ہے کہ آخری چہار شنبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسلِ صحت فرمایا اور تفریح کے لئے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ ربیع الاول میں عام مسلمان محفل میلاد شریف کی مجلسیں کرتے ہیں۔ جن میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پاک کا ذکر اور قیامتِ خواتی درود شریف کی کثرت ہوتی ہے اور بارہویں ربیع الاول کو جلوس نکالا جاتا ہے اور ربیع الآخر شریف میں گیارہویں شریف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلسیں کرتے ہیں۔ جس میں حضرت غوث پاک کے حالات پڑھ کر سامعین کو سناتے ہیں اور بعد فاتحہ تقسیم شریفی کرتے ہیں یا مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مگر اس زمانہ کے مسلم نامزدین یعنی دیوبندی، وہابی ان پاک مجلسوں کو بدعت کہہ کر روکتے ہیں چنانچہ پنجاب کے اکثر علاقہ میں یہ رسمیں بالکل بند کر دی گئی ہیں۔



رجب میں ۲ تاریخ کو مسلمان عید معراج النبی کی تقریب میں جلسے کرتے ہیں۔ جس کو رجبی شریف کہتے ہیں۔ اسے کفار روکتے ہیں۔ شب بارت یعنی پندرہویں شعبان کو مسلمان بچے اس قدر آتش بازی چلاتے ہیں کہ راستہ چلنا مشکل ہوتا ہے بہت جگہ سے آگ لگ جاتی ہے۔ رمضان شریف میں بعض بے غیرت مسلمان روزہ داروں کے سامنے اور سہر بازاروں میں کھاتے پیتے ہیں۔ بلکہ روٹی کی دکانوں میں بھی پرودہ ڈال کر کھانا کھاتے ہیں، عید اور بقر عید کے دن عید کی نماز پڑھ کر سارا دن کھیل کود میں گزارتے ہیں۔ اور شہروں میں ان دنوں میں عید بقر عید کی خوشی میں سینما کے چار چار شو ہوتے ہیں۔ سینما کے ہال مسلمانوں سے کچھ کھج بھرے رہتے ہیں اور جن کی نئی شادی ہو وہ پہلی عید ضرور سسرال میں کرتے ہیں اور جن بڑکوں کی منگنی ہو گئی ہے ان کے گھر سے دلہن کے گھر جوڑا جانا ضروری ہے۔

**ان رسموں کی خرابیاں**۔ محرم کا مہینہ نہایت مبارک مہینہ ہے۔ خاص کر عاشورہ کا دن بہت ہی مبارک ہے کہ دسویں محرم جمعہ کے دن حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے زمین پر تشریف لائے اور اسی تاریخ اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات پائی اور فرعون غرق ہوا۔ اسی دن اور اسی تاریخ میں سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں شہادت پائی اور اسی جمعہ کا دن اور غالباً اسی دسویں محرم کو قیامت آئے گی۔ بخوشی جمعہ کا دن اور دسویں محرم بہت مبارک دن ہے اسلام میں سب سے پہلے صرف عاشورہ کا روزہ فرض ہوا۔ پھر رمضان شریف کے روزوں سے اس روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی مگر اس دن کا روزہ اب بھی سنت ہے۔ لہذا ان دنوں میں جس طرح نیک کام کرنے کا ثواب زیادہ ہے اسی طرح گناہ کرنے کا عذاب بھی زیادہ تعزیر داری اور علم نکالنا کو دنا، ناچنا یہ وہ کام ہیں جو بڑی بڑی لوگوں نے

کئے تھے کہ امام حسین دو گھر شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سر نیزوں پر رکھ کر  
 ان کے آگے کودتے ناچتے خوشیاں مناتے ہوئے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق یزید  
 پلید کے پاس لے گئے۔ باقی اہل بیت نے نہ کبھی تعزیرہ واری کی اور نہ ظلم نکالے، نہ سینے  
 کوٹے نہ ماتم کئے۔ لہذا اے مسلمانوں ان مبارک دنوں میں یہ کام ہرگز نہ کرو، ورنہ سخت  
 گنہگار ہو گے۔ خود بھی ان جلسوں اور ماتم میں شریک نہ ہو اور اپنے بچوں اپنی بیویوں  
 دوستوں کو بھی روکو۔ رافضیوں کی مجلس میں ہرگز شرکت نہ کرو۔ بلکہ خود اپنی سینوں کی  
 مجلسیں کرو جس میں شہادت کے سچے واقعات بیان ہوں۔ آخری چار شنبہ ماہ صفر کے  
 متعلق جو روایت مشہور ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس تاریخ میں غسلِ صحت فرمایا۔  
 وہ محض غلط ہے، ۲۷ صفر کو مرض شریف یعنی دردِ سر اور بخار شروع ہوا۔ اور بارہویں  
 ریح الاول دو شنبہ کے دن وفات ہو گئی۔ درمیان میں صحت نہ ہوئی۔ فاتحہ اور قرآن خوانی  
 جب بھی کر دھرج نہیں۔ مگر گھر سے برتن پھوڑنا مال کو برباد کرنا ہے جو حرام ہے ریح الاول  
 میں محفلِ میلاد شریف اور ریح الثانی میں مجلس گیارہویں شریف بہت مجلسیں ہیں۔ ان کو  
 بند کرنا بہت نادانی ہے تفسیر روح البیان میں ہے کہ محفلِ میلاد شریف کی برکت سال  
 بھر تک گھر میں رہتی ہے اس کے لئے ہماری کتب جبار الحق دیکھو ان مجلسوں کی وجہ سے  
 مسلمانوں کو نصیحت کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور مسلمانوں میں حضور علیہ السلام کی محبت  
 پیدا ہوتی ہے جو ایمان کی بڑ ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ابولہب نے حضور علیہ الصلوٰۃ  
 والسلام کے پیدا ہونے کی خوشی میں اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کیا تھا۔ اس کے مرنے کے  
 بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ پوچھا تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حال تو بہت  
 خراب ہے مگر سووارِ پیر کے دن عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ میں نے حضور علیہ

الصلاة والسلام کے پیدا ہونے کی خوشی کی تھی۔ جب کافر ابولہب کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی کا کچھ نہ کچھ فائدہ مل گیا تو مسلمان مگر اس کی خوشی منانے تو ضرور ثواب پائے گا۔ لیکن یہ خیال رہے کہ جو ان عورتوں کا اس طرح غزلیں پڑھنا کہ انکی آواز غیر مردوں کو پہنچے حرام ہے کیونکہ عورت کی آواز کا غیر مردوں سے پردہ ہے۔ اسی طرح ربیع الاول میں جلوس نکالنا بہت مبارک کام ہے جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ پاک کے جوان و بچے وہاں کے بازاروں، کوچوں اور گلیوں میں یا مَسْأُولَ اللّٰہِ کے نعرے لگاتے پھرتے تھے اور جلوس نکالے گئے تھے مسلم اور اس جلوس کے ذریعہ سے وہ کفار اور دوسری قومیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حالات سن لیں گے۔ جو اسلامی جلسوں میں نہیں آتے ان کے دلوں میں اسلام کی ہیبت اور بانی اسلام علیہ السلام کی عزت پیدا ہوگی۔ مگر جلوس کے آگے باجہ وغیرہ کا ہونا یا ساتھ میں عورتوں کا جانا حرام ہے۔

**رجب شریف**۔ اس مہینہ کی ۲۲ تاریخ کو یوپی میں کونڈے ہوتے ہیں یعنی نئے کونڈے منگاتے جاتے ہیں۔ اور سوپاؤ میدہ، سوپاؤ شکر سوپاؤ گھی کی پوریاں بنا کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرتے ہیں۔ اس رسم میں صرف دو خرابیاں پیدا کر دی گئی ہیں ایک تو یہ کہ فاتحہ دلانے والوں کا عقیدہ یہ ہو گیا ہے اگر فاتحہ کے ایل لکڑی والے کا قصہ نہ پڑھا جاتے تو فاتحہ نہ ہوگی اور یہ پوریاں گھر سے باہر نہیں جا سکتیں۔ اور بغیر نئے کونڈے کے یہ فاتحہ نہیں ہو سکتی یہ سارے خیال غلط ہیں۔ فاتحہ ہر کونڈے پر اور ہر برتن میں ہو جائے گی۔ اگر صرف زیادہ صفائی کے لئے نئے کونڈے منگالیں تو حرج نہیں دوسری فاتحہ کے کھانوں کی طرح اس کو بھی باہر بھیجا جا سکتا ہے۔

رجبی شریف بھی حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی خوشی ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ مگر اس میں بھی جوان عورتوں کو غزلیں بلند آواز سے پڑھنا کہ جس سے باہر آواز پہنچے حرام ہے۔

**شب برات** شب برات کی رات بہت مبارک ہے اس رات میں سال بھر میں ہونے والے سارے انتظامات فرشتوں کے سپرد کر دیئے جاتے ہیں کہ اس سال میں فلاں فلاں کی موت ہے فلاں فلاں جبکہ اتنا پانی برسایا جاوے گا۔ فلاں کو مالدار اور فلاں کو غریب بنایا جائے گا اور جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں ان کو عذاب الہی سے چھٹکارا یعنی رہائی ملتی ہے۔ اسلئے اس رات کا نام شب برات عربی میں برات کے معنی رہائی اور چھٹکارا ہیں۔ یعنی یہ رات رہائی کی رات ہے قرآن کریم فرماتا ہے **فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ** اس رات کو زمزم کے کنوئیں میں پانی بڑھایا جاتا ہے اس رات حق تعالیٰ کی رحمتیں بہت زیادہ اترتی ہیں (تفسیر روح البیان سورہ دخان)

اس رات کو گناہ میں گزارنا بڑی محرومی کی بات ہے آتشبازی کے متعلق مشہور یہ ہے کہ یہ نمرود بادشاہ نے ایجاد کی جبکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہو گئی تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف پھینکیے کاٹھیا واڑیں ہندو لوگ ہولی اور دیوالی کے موقع پر آتشبازی چلاتے ہیں۔ ہندوستان میں یہ رسم مسلمانوں نے ہندوؤں سے سیکھی۔ مگر افسوس کہ ہندو تو اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ مگر مسلمانوں کا لاکھوں روپیہ سالانہ اس رسم میں برباد ہو جاتا ہے اور ہر سال خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ سے اتنے گھر آتشبازی سے جل گئے اور اتنے آدمی جل کر مر گئے۔ اس میں جان کا خطرہ اور مال کی بربادی مکانوں میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے اپنے مال میں اپنے ہاتھ سے آگ لگانا اور پھر خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا وبال سر پر ڈالنا ہے خدا کے لئے اس بیہودہ اور حرام کام سے بچو۔ اپنے بچوں اور قرابت داروں کو روکو جہاں آوارہ بچے یہ کھیل کھیل رہے ہوں وہاں تماشا دیکھنے کے لئے بھی نہ مجاؤ۔ آتشبازی بنانا۔



اس کا بیچنا۔ اس کا خریدنا اور خریدوانا۔ اس کا چلانا یا چلوانا سب حرام ہے۔

**رمضان شریف**۔ میں دن کو سب کے سامنے، کھانا، پینا سخت گناہ اور

بے حیائی ہے۔ پہلے زمانہ میں ہندو اور دوسرے کفار بھی رمضان میں بازاروں میں کھانے پینے سے بچتے تھے۔ کہ یہ مسلمانوں کے روزے کا زمانہ ہے۔ مگر جب مسلمانوں نے خود ہی

اس مہینہ کا ادب چھوڑ دیا تو دوسروں کی شکایت کیا ہے۔

**عید، بقر عید**۔ بھی عبادت کے دن ہیں۔ ان میں بھی مسلمان گناہ اور بے حیائی کرتے

ہیں۔ اگر مسلمان قوم حساب لگائے تو ہندوستان میں ہزار ہا روپیہ روزانہ سینماؤں،

تھیٹروں اور دوسری عیاشی میں خرچ ہو رہا ہے۔ اگر قوم کا یہ روپیہ بچ جائے اور کسی

قومی کام میں خرچ ہو تو قوم کے غریب لوگ مل جائیں اور مسلمانوں کے دن بدل جائیں

غرضکہ ان دنوں میں یہ کام سخت گناہ ہیں۔

**ان دنوں میں اسلامی رسمیں**۔ ان مہینوں میں کیا کام کرنے چاہئیں یہ تو ہم

انشاء اللہ اس کتاب کے آخر میں عرض کریں گے۔ کچھ ضروری باتیں یہاں بتاتے ہیں محرم

کی دسویں تاریخ کو حلیم (کھچڑا) پکانا بہت بہتر ہے کیونکہ جب حضرت نوح علیہ السلام اس

دن اپنی کشتی سے زمین پر آئے تو کوئی غلہ نہ رہا تھا۔ کشتی والوں کے پاس جو کچھ غلہ کے دانے

تھے وہ سب ملا کر پکائے گئے (تفسیر روح البیان پارہ بارہواں آیت قصہ نوح) اور حدیث <sup>شریف</sup>

میں آیا ہے کہ جو کوئی عاشورہ کے دن اپنے گھر کھانے میں وسعت کرے۔ یعنی خوب پکائے

اور کھلائے تو سال بھر اس کے گھر میں برکت رہے گی (شامی) اور کھچڑے (حلیم) میں ہر کھانا

پڑتا ہے لہذا امید ہے کہ ہر کھانے میں سال بھر تک برکت رہے گی۔ صدقہ و خیرات کرے،

اپنے گھر اور محلہ میں ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کرے۔ جس میں اگر

رونا آئے تو آنسوؤں سے روئے کپڑے پھاڑنا ماتم کرنا۔ منہ پیٹنا، سوگ کرنا حرام ہے۔  
 رافضیوں کی مجلسوں میں ہرگز نہ جہاد کہ وہاں اکثر تبراً ہوتا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کو گالیاں دیتے  
 ہیں۔ ربیع الاول میں ہینہ بھرتک جب چاہو محفل میلاد شریف کرو۔ مگر اس کے پڑھنے والے  
 یا تو مرد ہوں یا چھوٹی لڑکیاں اور اگر جوان لڑکیاں اور عورتیں پڑھیں تو اتنی نیچی آواز سے  
 روایتیں پڑھیں کہ ان کی آواز باہر نہ جائے اور محفل میلاد شریف میں روزے، نماز اور پرو  
 وغیرہ کے احکام بھی سنائے جائیں تاکہ نعت شریف کے ساتھ احکام اسلام کی بھی تبلیغ ہو  
 اور جن قدر خوشی مناؤ عطر ملو۔ گلاب چھڑکو۔ ہار پھول ڈالو بہت ثواب ہے۔ حضور علیہ السلام  
 کی پیدائش اللہ کی رحمت ہے۔ اور اللہ کی رحمت پر خوشی منانا۔ قرآن کریم کا حکم ہے قرآن  
 شریف فرماتا ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ بلکہ ہر خوشی و غم  
 کے موقع پر میلاد شریف کرو شادی بیاہ، موت بیماری ہر وقت ان کے گیت گادو کیونکہ۔

ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو

جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں

رجب کے ہینہ میں ۲۲ تاریخ کو کونڈوں کی رسم بہت اچھی اور برکت والی ہے۔ مگر اس میں  
 سے یہ قید نکال دو کہ فاتحہ کی چیز باہر نہ جائے اور لکڑی والے کا قصہ ضرور پڑھا جائے۔  
 شب پر رات میں رات بھر جاگو قبروں کی زیارت کرو رات بھر نفل پڑھو۔ جلوے پر فاتحہ  
 پڑھ کر خیرات کرو اور باقی اس کے احکام آخر میں لکھے جائیں گے۔ رمضان شریف میں جو  
 کوئی کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھے وہ بھی کسی کے سامنے نہ کھائے پیئے چار وجہ سے روزہ  
 معاف ہے عورت کو حیض یا نفاس آنا ایسی بیماری جس میں روزہ نقصان کرے۔ سفر مگر  
 ان سب صورتوں میں قضا کرنی پڑے گی۔

سنا بیسویں رمضان غالباً شب قدر ہے اس رات کو سو کے تو ساری رات جاگ کر عبادت کرو۔ ورنہ سحری کھا کر پھر سوؤ۔ صبح تک قرآن مجید اور نفل پڑھو۔ رمضان شریف میں ہر نیک کام کا ثواب ستر گنا ملتا ہے اس لئے پورا ماہ رمضان قرآن مجید کی تلاوت اور نوافل پڑھنے اور صدقہ و خیرات میں گزار دو عید کے دن اچھے کپڑے پہنا، غسل کرنا خوشبو ملنا سنت ہے ایک دوسرے کو مبارک باد دو اگر تمہارے پاس ۵۶ روپے نقد یا اس قیمت کا کوئی تجارتی مال یا ساڑھے باون تو لے چاندی یا ساڑھے سات تو لے سونا ہے اور قرض وغیرہ نہیں ہے تو اپنی طرف سے اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے فطرہ ادا کرو۔ فطرہ خواہ رمضان میں دے دو یا عید کی نماز سے پہلے عید کے دن دے دو فطرہ ایک شخص کی طرف سے ۱۷۵ روپیہ اٹھنی بھر گیہوں یا اس سے دو گنا جو یا اس کی قیمت کا باجرہ چاول وغیرہ ہے پھر کچھ خرمے کھا کر عید گاہ کو جاؤ۔ راستہ میں آہستہ آہستہ تکبیر کہتے جاؤ ایک راستے سے واپس آؤ دوسرے راستے سے بقر عید کے دن یہ کام کرو غسل کرنا کپڑے بدلنا خوشبو لگانا مگر اس دن بقیہ کچھ کھائے عید گاہ کو جاؤ۔ راستہ میں بلند آواز سے تکبیر کہتے ہوئے جاؤ اور اگر تمہارے پاس اتنا مال ہے جو فطرے کے لئے بیان کیا گیا۔ تو بعد نماز کے اپنی طرف سے قربانی کرو۔ یاد رکھو کہ سال بھر میں پانچ دن روزہ رکھنا منع ہے ایک عید الفطر کا اور چار دن بقر عید کے یعنی دسویں، گیارہویں، بارہویں، تیرہویں باقی احکام کے لئے بہار شریعت دیکھو فضول خرچیوں کو بند کرو۔ اور اس سے جو پیسے بچے اس سے اپنے قرابت داروں اور محلے والوں، یتیم خانوں اور دینی مدرسوں کی مدد کرنا چاہیے یقین سے جاؤ کہ مسلم قوم کی عید جب ہی ہوگی جب سازی قوم خوش حال، بہتر مند اور پرہیزگار ہو۔ اگر تم نے اپنے بچوں کو عید کے دن کپڑوں سے لادویا۔ لیکن تمہاری مسلم قوم کے غریب بچے اس دن در بدر بھیک مانگتے پھرے تو سمجھ لو کہ یہ عید قوم کی نہیں۔ حق تعالیٰ مسلم قوم کو سچی عید نصیب فرمادے آمین۔

## چھٹا باب

### نیافیشن اور پردہ

نئے تعلیم یافتہ لوگوں نے مسلمانوں کی موجودہ پستی اور ان کی بیماریوں کا علاج یہ سوچا ہے کہ مسلمان مغربی تہذیب میں اپنے آپ کو فنا کر ڈالیں اس طرح کے مرد و اڑھیاں منڈو ہیں مویں نہیں لمبی کریں۔ نگرہ جانا گھیا، کوٹ تپلون، ہیٹ استعمال کریں۔ نماز کو خیر باد کہہ دیں اور اپنے کو ایسا ظاہر کریں کہ یہ کسی انگریز کے فرزند ہیں اور عورتوں کو گھروں سے باہر نکالیں، پردہ توڑ دیں، اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر بازاروں، کمپنی باغوں اور تفریح گاہوں میں گھومتے پھریں۔ رات کو بیگم کو لے کر سنیما جائیں۔ بلکہ کالج اور سکولوں میں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں۔ بلکہ مرد و عورتیں مل کر ٹینس ہاکی وغیرہ کھیلیں یہ بھوت ان عقلمندوں پر ایسا سوار ہوا ہے کہ جو ان کو سمجھاتا ہے۔ اس کے یہ دشمن ہیں۔ اس کو ملاں یا مسجد کا لٹایا پرانی ٹائپ کا بڈھا کہہ کر اس کا مذاق اڑا کر رکھ دیتے ہیں۔ اخباروں اور رسالوں میں برابر پردہ کے خلاف مضامین چھپ رہے ہیں قرآنی آیتوں اور احادیث شریفہ کو کھینچ تان کر پردہ کے خلاف چسپاں کیا جا رہا ہے میں تو اب تک نہ سمجھ سکا کہ ان حرکتوں سے مسلم قوم ترقی کیوں کر سکے گی۔ اور جن صاحبوں نے اپنے گھروں میں پیرس اور لندن کا نمونہ پیدا کیا ہے انہوں نے اب تک کتنے ملک جیتے اور انہوں نے مسلمانوں کو اپنی ذات سے کیا فائدے پہنچاتے۔ ہم اس باب کی دو فصلیں کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں نئے فیشن کی خرابیاں اور دوسری فصل میں پردے کے فائدے اور بے پردگی کے نقلی اور عقلی نقصانات بیان کریں گے۔ حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور مسلمانوں کو عمل کی توفیق دے۔



# پہلی فصل نئے فیشن کی خرابیاں

قرآن کریم فرماتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ط** اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ انسان کو قدرت نے دو قسم کے اعضاء دیے ہیں۔ ایک ظاہری دوسرے چھپے ہوئے ظاہری عضو تو صورت چہرہ آنکھ، ناک، کان وغیرہ ہیں۔ اور چھپے ہوئے عضو دل، دماغ، جگر وغیرہ مسلمان کامل ایمان والا جب ہو سکتا ہے کہ صورت میں بھی مسلمان ہو اور دل سے بھی۔ یعنی اسلام کا اس پر ایسا رنگ چڑھے کہ صورت اور سیرت دونوں کو رنگ دے دل میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ موجیں مار رہا ہو اس میں ایمان کی شمع جل رہی ہو اور صورت ایسی ہو جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ یعنی مسلمان کی سی۔ اگر دل میں ایمان ہے مگر صورت بھگوان واس کی سی۔ تو سمجھ لو کہ اسلام میں پورے پورے داخل نہ ہوئے سیرت بھی اچھی بناؤ اور صورت بھی غور سے سناؤ حضرت مغیرہ ابن شیبہ جو کہ اصحابی رسول اللہ میں ایک بار ان کی مونچھیں کچھ بڑھ گئی تھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مغیرہ! تمہاری مونچھیں بڑھ گئیں۔ کاٹ لو انہوں نے خیال کیا کہ گھر جا کر قینچی سے کاٹ دوں گا۔ مگر سرکاری فرمان ہوا کہ ہماری مسواک لو۔ اس پر بڑھے ہوئے بال رکھ کر چھری سے کاٹ دو یعنی اتنی بھی مہلت نہ دی کہ گھر جا کر قینچی سے کاٹیں۔ نہیں یہاں ہی کاٹ دو۔ جس سے معلوم ہوا کہ بڑھی مونچھیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ناپسند تھیں دنیا میں ہزاروں پیغمبر تشریف لائے مگر کسی نبی نے نہ واڑھی سنتی اور نہ مونچھیں رکھائیں۔ لہذا واڑھی فطرت یعنی سنت انبیاء علیہم السلام ہے۔ حدیث پاک میں ہے واڑھیاں اور مونچھیں پست کرو اور مشرکین کی مخالفت کرو۔ اس کے علاوہ بہت سی نقلی دلیل دی جا سکتی ہیں۔

مگر ہمارے لئے تعلیم یافتہ لوگ نقلی دلائل کے مقابلے عقلی باتوں کو زیادہ مانتے ہیں۔ گویا کلاب  
 کے پھول کے مقابلے میں گینڈے کے پھول ان کو زیادہ پیارے ہیں۔ اس لئے عقلی باتیں بھی  
 عرض کرتا ہوں سنو! اسلامی شکل اور اسلامی لباس میں اتنے فائدے ہیں (۱) گورنمنٹ نے  
 ہزاروں محکمے بنا دیئے ہیں۔ ریلوے ڈاکخانہ پولیس، فوج اور کچہری وغیرہ اور ہر محکمے کے لئے  
 دروی علیحدہ علیحدہ مقرر کر دی کہ اگر لاکھوں آدمیوں میں کسی محکمہ کا آدمی کھڑا ہو تو صاف پہنچان  
 میں آجاتا ہے۔ اگر کوئی سرکاری نوکر اپنی ڈیوٹی کے وقت اپنی دروی میں نہ ہو تو اس پر جرات  
 ہوتا ہے۔ اگر بار بار کہنے پر نہ مانے تو برخاست کر دیا جاتا ہے اسی طرح ہم بھی محکمہ اسلام  
 اور سلطنت مصطفوی اور حکومت الہیہ کے نوکر ہیں۔ ہمارے لئے علیحدہ شکل مقرر کر دی کہ  
 اگر لاکھوں کافروں کے بیچ میں کھڑے ہوں۔ تو پہنچان لئے جائیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام کا  
 غلام وہ کھڑا ہے۔ اگر ہم نے اپنی دروی چھوڑ دی تو ہم بھی سزا کے مستحق ہوں گے۔ (۲) قدرت نے  
 انسان کی ظاہری صورت اور دل میں ایسا رشتہ رکھا ہے کہ ہر ایک کا دوسرے پر اثر پڑتا ہے اگر  
 آپ کا دل ننگی ہے تو چہرہ پر اسی چھا جاتی ہے اور دیکھنے والا کہہ دیتا ہے کہ خیر تو ہے۔ چہرہ  
 کیوں ادا ہے۔ دل میں خوشی ہے تو چہرہ بھی مسرخ و سپید ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دل کا  
 اثر چہرہ پر ہوتا ہے اسی طرح اگر کسی کو دق کی بیماری ہے تو حکیم کہتے ہیں کہ اس کو اچھی ہوا  
 میں رکھو اچھے اور صاف کپڑے پہناؤ اس کو فلاں دوا کے پانی سے غسل دو کہئے بیماری تو دل میں  
 ہے۔ یہ ظاہری جسم کا علاج کیوں ہو رہا ہے اسی لئے کہ اگر ظاہر اچھا ہوگا تو اندر بھی اچھا ہو جائیگا  
 تندرست آدمی کو چاہیے کہ روزانہ غسل کرے صاف کپڑے پہنے صاف گھر میں رہے۔ تو تندرست  
 رہے گا۔ اسی طرح غذا کا اثر بھی دل پر پڑتا ہے۔ سو رکھانا شریعت نے اسی لئے حرام فرمادیا  
 کہ اس سے بے غیرتی پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ سوڑے غیرت جانور ہے اور سوڑے کھانے والی تو ہیں

بھی بے غیرت ہوتی ہیں۔ جس کا تجربہ ہو رہا ہے اگر چیتے یا شیر کی چربی کھائی جائے تو دل میں سختی اور بربریت پیدا ہوتی ہے چیتے اور شیر کی کھال پر بیٹھنا اسی لئے منع ہے کہ اس سے غرور پیدا ہوتا ہے۔ غرض کہ ماننا پڑے گا کہ غذا اور لباس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ تو اگر کافروں کی طرح لباس پہنا گیا یا کفار کی سی صورت بنائی گئی۔ تو یقیناً دل میں کافروں سے محبت اور مسلمانوں سے نفرت پیدا ہو جاوے گی۔ غرض کہ یہ بیماری آخر میں جہلک ثابت ہوگی۔ اسلئے حدیث پاک میں آیا ہے۔ مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ جو کسی دوسری قوم سے مشابہت پیدا کرے وہ ان میں سے ہے۔ خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کی سی صورت بناؤ۔ تاکہ مسلمانوں ہی کی طرح سیرت پیدا ہو۔ (۳) ہندوستان میں اکثر ہندو مسلم فساد ہوتا رہتا ہے اور بہت جگہ سننے میں آیا کہ فساد کی حالت میں بعض مسلمان مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے کیونکہ پہچانے نہ گئے کہ یہ مسلمان ہیں یا ہندو۔ چنانچہ تیسرے سال جو بریلی اور پٹی بھیت میں ہندو مسلم فساد ہوا۔ اس جگہ سے خبریں آئیں کہ بہت سے مسلمانوں کو خود مسلمانوں نے ہندو سمجھ کر قتل کر دیا۔ یہ اس نئے فیشن کی برکتیں ہیں میرے ولی نعمت مرشد برحق حضرت صدرالافتا ضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب قبلہ دام ظلہم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم ریل میں سفر کر رہے تھے کہ ایک اسٹیشن سے ایک صاحب سوار ہوئے جو بظاہر ہندو معلوم ہوتے تھے۔ گاڑی میں جگہ تنگ تھی ایک لالہ جی سے ان کا جگہ لینے کے لئے جھگڑا ہو گیا۔ لالہ جی کے ساتھ زیادہ تھے۔ اس لئے لالہ جی نے ان حضرت کو خوب پٹیا مسلمان مسافر بیچ بچاؤ میں زیادہ نہ پڑے کیونکہ سمجھتے تھے کہ ہندو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہمارا زیادہ زور دینا خلاف مصلحت ہے بے چارے شامت کے مارے پٹ کٹ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ جب اگلے اسٹیشن پر اترے تو انہوں نے کہا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ تب معلوم ہوا کہ یہ حضرت مسلمان ہیں۔ تب ہم نے افسوس کیا اور ان سے

عرض کیا کہ حضرت آپ کے فلیشن نے آپ کو اس وقت پٹوایا۔ میں جب کبھی بازار وغیرہ جاتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ سلام کسے کروں معلوم نہیں کہ ہندو کون ہے اور مسلمان کون؟ بہت دفعہ کسی کو کہا السلام علیکم انہوں نے فرمایا بندگی صاحب ہم شرمندہ ہو گئے۔ میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے مسلمان کی دکان سے چیز خریدوں۔ مگر دوکاندار کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ پہچان نہیں ہوتی کہ یہ کون ہیں اگر دوکان پر کوئی بورڈ لگا ہے۔ جس کے نام سے معلوم ہو گیا کہ یہ مسلمان کی دکان ہے تو خیر ورنہ بہت دشواری ہوتی ہے۔ غرض کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ شکل اور لباس میں کفار سے علیحدہ رہیں۔ (۴) کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں ہوگی۔ اگر ہم پردوں میں مر گئے جہاں ہمارا جان پہچان والا کوئی نہ ہو تو سخت مشکل درپیش ہوگی۔ لوگ پریشان ہوں گے کہ ان کو دفن کریں یا آگ میں جلا دیں کیونکہ صورت سے پہچان نہ پڑے گی چنانچہ چند سال پیش علی گڑھ کے ایک صاحب کاریل میں انتقال ہو گیا۔ خبر ہونے پر رات میں نعش اتاری گئی۔ مگر اب یہ فکر ہوتی کہ یہ ہے کون؟ ہندو یا مسلمان اس کو سپرد خاک کریں یا آگ میں ڈالیں۔ آخر ان کا ختنہ دیکھا گیا۔ تب پتہ لگا کہ یہ مسلمان میں خلاصہ یہ ہے کہ کفار کی سی شکل اور ان کا سا لباس زندگی میں بھی خطرناک ہے اور مرنے کے بعد بھی۔

(۵) زمین میں جب بیج بویا جاتا ہے۔ تو اولاً ایک سیدھی سی شاخ ہی نکلتی ہے پھر آکر ہر طرف پھیلتی ہے۔ پھر اس میں پھل نکلتے ہیں اگر کوئی شخص اس کی چوٹ کی شاخوں اور پتوں کو کاٹ ڈالے تو پھل نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح کلمہ طیبہ ایک بیج ہے۔ جو مسلمان کے دل میں بویا گیا۔ پھر صورت اور ہاتھ پاؤں، آنکھ، ناک کی طرف اس درخت کی شاخیں چلیں کہ اس کلمہ نے مسلمان کی آنکھ کو غیر صورتوں سے علیحدہ کر دیا۔ ہاتھ کو حرام چیز کے چھونے سے روک دیا۔ صورت پر ایمانی آثار پیدا کر دیئے کان کو غیبت سننے اور زبان کو جھوٹ بولنے



غیبت کرنے سے روکا جو شخص دل سے مسلمان تو ہو مگر کافروں کی سی صورت بنائے اپنے ہاتھ پاؤں،  
 زبان آنکھ، ناک، کان کو حرام کاموں سے منروکے۔ وہ اسی شخص کی طرح ہوگا جو آم کایج بوئے اور اسکی تمام  
 شاخیں وغیرہ کاٹ ڈالے حسب طرح بیوقوف پھل سے محروم ہوگا اسی طرح مسلمان اسلام کے پھلوں سے محروم ہوگا۔  
 (۶) پکارنگ وہ ہوتا ہے جو کسی پانی یا دھوبی سے نہ چھوٹے اور پکارنگ وہ جو چھوٹ جائے تو اسے مسلمانوں  
 تم اللہ کے رنگ میں رنگے ہوتے ہو۔ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً لَمْ يَكُنْ كَافِرًا  
 اپنے رنگ کو کھو بیٹھے تو جان لو کہ تمہارا رنگ پتلا تھا۔ اگر پکارنگ ہوتا تو اوروں کو رنگ آتے۔  
 مسلمانوں کے عذر یہ ہم مسلمانوں کے وہ عذر بھی پیش کر دیں جو کہ وہ بیان کرتے ہیں اور جس اپنی مجبوریوں کا اظہار کرتے ہیں  
 (۱) خدا و لکھو دیکھتا ہے۔ شکل کو نہیں دیکھتا۔ دل صاف چاہیے۔ حدیث میں ہے ان الله لا ينظر الى صوركم  
 ينظر الى قلوبكم یہ عذر پڑھے رکھے مسلمان کہتے ہیں جواب: اچھا صاحب! اگر ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں، دل کا  
 اعتبار ہے تو آپ میرے گھر کھانا کھاؤ یا شربت پیو اور میں نہایت عمدہ بادام کا شربت یا عمدہ بریانی کھلاؤ  
 پلاؤں۔ مگر گلاس یا رکابی میں اور پکی طرف خوب اچھی گندگی پلیدی بگاڑوں آپ اس برتن میں کھاو گے؟ ہرگز نہیں  
 کیوں جناب! برتن کا کیا اعتبار؟ اس کے اندر کی چیز تو اچھی ہے جب تم برے برتن میں اچھی غذا نہیں کھا  
 پیتے۔ تو رب تعالیٰ تمہاری بری صورتوں کیساتھ اچھے اعمال کیونکر قبول فرمائیگا۔ اگر قرآن شریف پڑھو تو لطف جب  
 کہ منہ میں قرآن شریف ہو۔ اور صورت پر اسکا عمل ہو۔ اگر تمہارے منہ میں قرآن ہے۔ اور صورت قرآن شریف کے  
 خلاف۔ تو گویا اپنے عمل سے تم خود چھوٹے ہو۔ بادشاہ کے آنے کیلئے گھر کا دروازہ دونوں صاف کرو۔ کیونکہ باد  
 دروازے سے آئیگا۔ اور گھر میں بیٹھے گا۔ اسی طرح قرآن شریف کیلئے دل اور صورت دونوں سنبھالو حدیث کے  
 معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا۔ بلکہ صورت کے ساتھ دل کو بھی دیکھتا ہے۔ اگر اسکا  
 وہ مطلب ہو تا جو تم سمجھتے ہو۔ تو پھر سر پر چوٹی، کان میں حلیو اور پاؤں میں دھوتی باندھ کر نماز پڑھنا جائز ہوتا  
 چاہئے تھا۔ حالانکہ فقہا فرماتے ہیں۔ کہ چوٹی رکھنا، زنا باندھنا کفر ہے۔ (۲) اسلامی شکل سے ہماری عزت

نہیں ہوتی۔ جب ہم انگریزی لباس میں ہوتے ہیں۔ تو ہماری عزت ہوتی ہے کیونکہ وہ ترقی یافتہ قوم کا  
 لباس ہے۔ جو اب آدمی کی عزت لباس سے نہیں بلکہ لباس کی عزت آدمی سے ہے اگر تمہارے  
 اندر کوئی جوہر ہے یا اگر تم عزت اور ترقی والی قوم کے فرد ہو۔ تو تمہاری ہر طرح عزت ہوگی کوئی بھی  
 لباس پہنو۔ اگر ان چیزوں سے خالی ہو تو کوئی لباس پہنو عزت نہیں ہوگی ابھی کچھ دن پہلے گاڑھی اور  
 اس کے دوسرے ساتھی گول میز کانفرنس میں شریک ہونے کیلئے لندن گئے۔ جب خاص پارلیمنٹ  
 کے دفتر پہنچے تو مسٹر گاندی اسی سوٹی اور اسی لنگوٹی میں تھے جو ان کا اپنا قومی لباس ہے۔ سو بھاش چند  
 برس نے ایک بار لندن کا سفر کیا تو اپنی گائے اور اپنی دھوتیا، لٹیا اپنے ساتھ لے گئے کہے کیا اس لباس  
 سے انکی عزت گھٹ گئی۔ آج مسلمانوں کے سوا تمام قومیں سکھ ہندو بلکہ کاٹھیاواڑ میں بہرے اور خود کشی  
 اپنے قومی لباس میں رہتے ہیں۔ سکھ کے منہ پر واڑھی، سر پر بال، ہاتھ میں لوسے کا کڑا برنگہرتنا  
 ہے۔ کیوں صاحب! کیا وہ دنیا میں قلیل ہیں۔ سچ ہے کہ جو انکی اس لباس میں عزت ہے وہ تمہاری  
 لوٹ سوٹ میں نہیں۔ دوستو! اگر عزت چاہتے ہو تو سچے مسلمان بنو اور اپنی مسلم قوم کو ترقی و ودس، آزادی  
 میں فائدہ کیلئے، کہ مولوی اس کے اتنے پیچھے پڑے ہیں۔ جو اب واڑھی اور تمام اسلامی لباس  
 کی خوبیاں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب بھی عرض کرتے ہیں کہ اسلام کے ہر کام میں صدا ہکتیں ہیں۔ سنو!  
 مسواک سنت ہے اس میں بہت فائدہ ہے۔ دانتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ مسوڑھوں کو فائدہ مند ہے۔  
 منہ کو صاف کرتی ہے۔ گندہ دہنی کی بیماری کو فائدہ مند ہے۔ معدہ درست کرتی ہے یعنی ہضم کرتی ہے۔  
 آنکھوں کی روشنی بڑھاتی ہے۔ زبان میں قوت پیدا کرتی ہے۔ دانتوں کو صاف رکھتی ہے۔ جانگنی کو آسان کرتی  
 ہے، بلغم کو کاٹتی ہے۔ پت دور کرتی ہے۔ سر کو رگوں کو مضبوط کرتی ہے۔ موت کے وقت کلمہ یاد دلاتی  
 ہے۔ غرض کہ اسکے فائدے ۳۶ ہیں دیکھو شامی اور طب کی کتابیں۔ اس طرح مختلف ڈیڑھ سو بیماریوں کے  
 لئے فائدہ مند ہے۔ باہ کو قوی کرتا ہے۔ انسان کی قوت مردی کو بڑھاتا ہے۔ اس جگہ میل وغیرہ جمع نہیں

ہونے دیتا۔ اولاد قوی پیدا کرتا ہے۔ ختنہ والے کی عورت کسی طرف رغبت نہیں کرتی بعض بیماریوں میں  
 ڈاکٹر مندوں کے چونکا بھی ختنہ کرا دیتے ہیں۔ ناخن میں ایک ہر لایا وہ ہوتا ہے۔ اگر ناخن کھائے  
 یا پانی میں ڈبوئے جائیں تو وہ کھانا بیماری پیدا کرتا ہے اسی لئے انگریز وغیرہ چھری کاٹنے سے کھانا کھا  
 ہیں کیونکہ عیسائیوں کے یہاں ناخن بہت کم کٹواتے ہیں اور پرتے نہاتے کے لوگ وہ پانی نہیں پیتے۔  
 جس میں ناخن ڈوب جائیں۔ مگر اسلام نے اسکا یہ انتظام فرمایا کہ ناخن کٹوانے کا حکم دیا اور چھری کاٹنے کی  
 مصیبت بچایا۔ اسی طرح مونچھوں کے بالوں میں ہر لایا وہ موجود اگر مونچھیں بڑھی بڑھی ہوں اور پانی  
 پیتے وقت پانی میں ڈوب جائیں تو پانی صحت کے لئے نقصان دہ ہوگا۔ اسی لئے اب موجودہ فیشن کے لوگ مونچھ  
 منڈوانے لگے۔ اس کا اسلام نے یہ انتظام فرمایا کہ مونچھیں کاٹنے کا حکم دیدیا۔ کیونکہ مونچھیں منڈانے سے  
 نامروی پیدا ہوتی ہے۔ واڑھی کے بھی بہت فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ واڑھی مرد کے چہرے  
 کی زینت ہے اور منہ کا نور جیسے عورت کیلئے سر کے بال یا انسان کیلئے آنکھ کے پلک اور بھوین (برو) کی زینت  
 ہیں۔ اسی طرح مرد کیلئے واڑھی۔ اگر عورت اپنے سر کے بال منڈا دے تو بری معلوم ہوگی یا کوئی آدمی اپنی  
 بھوین (بروٹے) اور پلکیں صاف کر دے۔ وہ برا معلوم ہوگا۔ اسی طرح مرد واڑھی منڈانے سے برا معلوم  
 ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ واڑھی مرد کو بہت گناہوں سے روکتی ہے۔ کیونکہ واڑھی  
 مرد پر بزرگی آجاتی ہے اسکو بڑے کام کرتے ہوتے یہ غیرت ہوتی ہے۔ کہ اگر کوئی دیکھے گا  
 تو کہے گا کہ ایسی واڑھی اور تیرے ایسے کام واڑھی کی بھی تجھ کو لاج نہ آئی۔ اس خیال سے وہ بہت  
 سی چھپوری باتیں اور کھلم کھلا برے کام سے بچ جاتا ہے یہ آزمائش ہے کہ نماز اور واڑھی بفضلہ تعالیٰ  
 برائیوں سے روکتی ہے۔ تیسرے یہ کہ واڑھی کے بالوں سے قوت مردی بڑھتی ہے ایک حکیم صاحب  
 کے پاس ایک نامو آیا جس نے شکایت کی کہ میں نے اپنی کمزوری کا بہت علاج کیا۔ کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اب  
 نے فرمایا کہ واڑھی کرکھ لے یہ اس کا آخری اور تیر بہت نسخہ ہے۔ پھر فرماتے لگے کہ قدرت نے انسان کے

بعض عضوروں کا بعض سے شتر رکھا ہے اور پر کے دانت اور واڑھوں کا انکھوں سے تعلق ہے اگر کوئی شخص اور پر کی واڑھیں نکال دے تو اس کا انکھیں خراب ہو جاتی ہیں۔ پاؤں کے تلووں کا بھی انکھوں سے تعلق ہے کہ اگر انکھوں میں گرمی ہو تو تلووں کی مالش کی جاتی ہے۔ اگر نیند نہ آئے۔ تو پاؤں کے تلووں میں گھی اور نمک کی مالش نیند لاتی ہے۔ اس طرح واڑھی کا تعلق خاص روکی قوتوں اور منی سے ہے اسی وجہ سے عورت کے واڑھی نہیں ہوتی اور نابالغ بچہ جسم میں منی کا مادہ نہیں ہوتا اور پھر انا مرد یعنی زنانہ کے واڑھی نہیں ہوتی بلکہ اگر کسی مرد کے واڑھی ہو اور اسکے فوقے نکال دیئے جائیں تو واڑھی خود بخود بھر جائیگی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام لوگوں میں مشہور ہے کہ مولویوں کے اولاد بہت ہوتی ہے اور مولوی کی بیوی آوارہ نہیں ہوتی۔ اسکی وجہ واڑھی ہی ہے لوزناں کے نیچے کے بال قوتِ مردی کیلئے نقصان دہ ہیں اسی لئے شریعت نے انکے صاف کرنے کا حکم دیا ہے اگر کسی کو اٹھوں در استرائے پن رہیں یا بیسیوں دن ضرورے بغرضکہ سنت کے ہر کم میں حکمتیں ہیں۔ ہم نے ایک کتاب لکھی ہے "انوار القرآن" جس میں نماز کی رکعتیں، وضو، غسل، اور تمام اسلامی کاموں کی حکمتیں بیان کی ہیں حتیٰ کہ یہ بھی اس میں بتایا ہے کہ جو نمازیں اسلام نے مقرر فرمائی ہیں۔ مثلاً چوری کی سزا، ہاتھ کاٹنا، زنا کی سزا، رجم کرنا اس میں کیا حکمتیں ہیں نیز ہم نے اپنی تفسیر نعیمی میں اسلامی احکام کے فوائد اچھی طرح بیان کر دیئے اس کا مطالعہ کرو۔ مونچھ کے بال بھی قوتِ مردی کے لئے فائدہ مند ہیں۔ مگر ان کی ٹوکوں میں زہریلا اثر ہے اس لئے ان کو کاٹ دو۔ مگر بالکل نہ منڈو۔ (۴) آج دنیا میں ہر جگہ واڑھی منڈوں کی ہی بادشاہت ہے۔ مال، دولت، حکومت، انہی کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ برکت والی چیز ہے (مسلمان یہ مذاق میں کہتے ہیں)

جواب:- اگر واڑھی منڈانے سے بادشاہت مل جاتی ہے حکومت، دولت، عورت لاکھاتی ہے تو جناب والا! آپ کو واڑھی منڈاتے، ہیٹ لگانے، کوٹ تپلون پہنتے ہوتے



عوضہ گزر گیا۔ آپ کو تو حکومت کیا کوئی چیز بھی نہیں ملی، پھر تمام بھنگی، چمار، چوہرے اور  
 ہر قوم یہ کام کرتی ہے۔ وہ کیوں بادشاہ نہیں بن گئی؟ دو ستوا عزت، حکومت، دولت  
 تم کو جو بھی ملے گا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملے گا۔ **وَإِنَّكُمْ لَآعْلُونَ**  
**إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** ط آج غیروں کو اس لئے تمہارا حاکم کر دیا گیا کہ تم میں حکومت کی  
 اہلیت نہ رہی۔ ورنہ یہ تمام عزتیں تمہارے ہی لئے تھیں، یاد رکھو! کہ ساری قومیں آگے  
 بڑھ کر ترقی کریں گی۔ مگر تم ساڑھے تیرہ سو برس پیچھے ہٹ کر سلطان اور ننگ زیب  
 شاہجہان وغیرہ اسی طرح عرب عجم کے تقریباً سارے اسلامی بادشاہ داڑھی والے ہی گزریں  
 لطیفہ: ایک مسلمان ہم سے کہنے لگے کہ اسلام نے ہم کو ترقی سے روکا۔ میں نے  
 کہا۔ وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ اس نے سود تو حرام کر دیا۔ اور زکوٰۃ فرض کر دی۔ پھر یہ شعر پڑھا

کیونکر ہوان اصولوں میں افلاس سے نجات

یاں سود تو حرام ہے اور فرض ہے زکوٰۃ!

آج دوسری قومیں سود کی وجہ سے ترقی کر رہی ہیں۔ اگر ہم بھی سود کا لین دین کریں۔ تو ہم بھی  
 ترقی کر سکتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ آج دنیا میں جو بھی مصیبت ہے وہ سود ہی کی وجہ سے ہے  
 بڑے بڑے بیوپاریاں کا ایک دم جو دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ وہ یا تو سٹے (جوئے) کی وجہ سے یا ہنڈی  
 کے لین دین (سودی کاروبار) سے۔ اگر آدمی اپنی پونجی کے مطابق کام کرے اور محنت، مشقت اور  
 دیانت داری سے تجارت کرے تو اس کی تجارت ٹھوس اور انشاء اللہ لازوال ہوگی اور زکوٰۃ کی  
 وجہ سے ساری قوم کی مالی حالت اچھی رہے گی۔ بشرطیکہ زکوٰۃ کو صحیح معنی میں خرچ کیا جائے زکوٰۃ  
 نکالنے سے اپنا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ گورنمنٹ کا حق ادا کرنے سے مال محفوظ ہوتا ہے  
 زکوٰۃ مال برباد نہیں ہوتا۔ بلکہ بڑھتا ہے۔ انگور اور پیر کے درخت کی شاخیں کاٹنے سے زیادہ

پھل آتا ہے اسی طرح زکوٰۃ دینے سے مال زیادہ ہوتا قدرت نے ہر چیز سے زکوٰۃ لی ہے۔ آپکے جسم پر بیماریاں آتی ہیں۔ یہ تندرستی کی زکوٰۃ ہے ناخن اور بال کٹوائے جاتے ہیں یہ عضو کی زکوٰۃ تو چاہیے کہ مال کی بھی زکوٰۃ ہو۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ ان کی بیکاری، تجارت سے نفرت اور آوارگی ہے اور یہ تو تجربہ ہے کہ مسلمان کے لئے سود پھیلتا نہیں۔ آخر کار تباہی لاتا ہے۔ دوسری قوم سود سے بڑھ سکتی ہے۔ مگر مسلمان انشاء اللہ سود لینے سے بڑھے گا۔ بلکہ زکوٰۃ دینے سے پانخانہ کیرا پانخانہ دگو، کھا کر زندگی گزارتا ہے۔ مگر بلبل کی غذا پھول ہے۔ مسلمان تو اتم بلبل پھول یعنی حلال کمائی حاصل کر کے کھاؤ۔ حرام پر نہ لجاؤ۔ حلال میں برکت ہے۔ حرام میں بے برکتی۔ دیکھو ایک بکری سال میں ایک یا دو بچے ہی دیتی ہے اور ہزار یا بکریاں ہر روز زواج ہو جاتی ہیں اور کیتا سال میں چھ سات بچے دیتی ہے اور کوئی کتا ذبح نہیں ہوتا مگر پھر بھی بکریوں کے جھنڈ کے جھنڈ اور ریورڈ کھینے میں آتے ہیں اور کتوں کا ریورڈ آج تک نظر نہ پڑا کیوں؟ اسلئے کہ بکری حلال ہے اور کتا حرام لہذا بکری میں برکت ہے۔ (۵) داڑھی مونچھ، کپڑا ہماری اپنی چیزیں ہیں۔ جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ مولوی لوگ اس پر کیوں پابندیاں لگاتے ہیں۔ گھر کی کھیتی ہے۔ جس وقت چاہو اور جس طرح چاہو کاٹو اور استعمال کرو۔

جواب یہ غلط خیال ہے۔ کہ یہ چیزیں ہماری اپنی ہیں۔ نہیں ہر چیز رب تعالیٰ کی ہے۔ ہم کو چند روزہ استعمال کیلئے دی گئی ہے۔ پھر چیز مالک کی ہی ہوگی۔ کسی نے کسی سے چرندہ مانگا تو جو سوت کات لیا وہ اپنا اور پھر چرندہ چرنے والے کا۔ اعمال سوت ہیں۔ اور یہ جسم چرندہ کا رخا سے کسی کو ایک مشین ملی۔ مگر وہ آدمی اس مشین کے کل پرزوں کو چلانے سے بے خبر ہے تو مشین کے ساتھ ایک کتاب بھی ملتی ہے۔ جس میں ہر پرزے کے استعمال کا طریقہ لکھا ہوتا ہے اور کمپنی کی طرف سے کچھ آدمی بھی مشین سکھانے والے مقرر ہوتے ہیں۔ کہ بے علم لوگ اس کتاب کو

دیکھیں اور اس استاد سے مشین چلانا سیکھیں۔ اگر یونہی کوئی غلط سلط مشین چلانا شروع کر دے۔  
 تو بہت جلد مشین توڑ ڈالے گا۔ اور ممکن ہے کہ مشین سے خود بھی پوٹ کھا جائے۔ اسی طرح  
 ہمارا جسم مشین ہے۔ ہاتھ پاؤں وغیرہ اس کے پرزے ہیں۔ یہ مشین ہم کو قدرت کے کارخانے  
 سے ملی ہے۔ اس کا استعمال سکھانے کے لئے کارخانہ کے مالک نے ایک کتاب بنائی جس کا نام ہے  
 ”قرآن مجید“ اور اس مشین کا کام سکھانے کے لئے ایک استادوں کا استاد و نیا بھر کا معلم بھیجا۔  
 جس کا نام پاک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس استاد اکل نے ہم کو مشین  
 چلا کر دکھادی اور قرآن مجید نے پکار دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  
 اے غافلو! اے مشین والو! اگر مشین صحیح طریقہ سے چلانا چاہتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم کے طریقہ پر چلاؤ۔ جیسے جسم پر جان حکومت کرتی ہے کہ ہر عضو اس کی مرضی سے حرکت کرتا ہے۔  
 اس طرح اس جان پر اس سلطان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بناؤ۔ کہ جو حرکت ہو ان ہی کی رضا  
 سے ہو۔ اسی کا نام تصوف ہے اور یہ ہی حقیقت، معرفت اور طریقت کا مغز ہے۔ حضرت  
 صدر الافاضل دام ظلہم نے خوب فرمایا۔

کھول دو سینہ مرا فاتح مکہ آکر      کعبہ دل سے صنم کھینچ کے دو باہر  
 آپ آجائے قالب میں مرے جان بن کر      سلطنت کیجئے اس جسم میں سلطان بن کر

## اسلامی شکل اور لباس

اسلامی شکل یہ ہے کہ سر کے بال یا تو سب رکھائے یا سب کٹوا دے یا سب منڈائے کچھ  
 بال رکھنا کچھ کٹوانا منع ہیں۔ جیسے کہ انگریزی بال میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی کچھ بال رکھنا اور کچھ  
 منڈانا منع ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ بیچ سر پر پان رکھواتے ہیں۔ یا بعض لوگ سر کے اگلے حصے پر

چھتے رکھواتے ہیں یا بعض جاہل مسلمان کسی بزرگ کے نام کی بچوں کے سروں پر ہندوؤں کی طرح چوٹی رکھتے ہیں۔ یہ سب منع ہے اور جس کے کل یا ان کے ہوں وہ یا تو کان کی لو تک۔ یا کندھوں تک رکھے۔ یعنی تا بگوش یا تا بدوش۔ کہ یہ سنت ہے اور زیادہ لمبے بال رکھنا۔ اور اس میں چوٹی مانگ عورتوں کی طرح کرنا منع ہے۔ چونچھ اس قدر کاٹنا ضروری ہے کہ اوپر کے ہونٹ کی ڈوری کھل جائے۔ بال نکل نہ کٹوانا یا بال نکل منڈا دینا منع ہے اور واڑھی ایک مٹھی رکھنا ضروری ہے۔ یعنی ٹھوڑی کے نیچے جو بال ہیں۔ انکو اپنی مٹھی میں بکڑے جو مٹھی سے آگے نکلے ہوں وہ کٹوادے۔ یعنی مٹھی سے کم کرنا بھی منع اور مٹھی سے زیادہ لمبی رکھنا بھی منع ہے اب یہی اس پاس کی واڑھی یعنی جبرطوں پر کے بال وہ جس قدر گول دائرے میں آجائیں وہ نہ کٹوانے اور جو دائرے سے نکل جائیں۔ وہ کٹوادے۔ یعنی جبکہ ٹھوڑی کے نیچے کے بال ایک مٹھی لمبے ہوں اور اسکے دائرے میں جس قدر بال آجائیں۔ اسکا کٹوانا بھی منع ہے تاکہ بال کٹوانا اور نعل کے بال اکھیرنا سنت ہے اگر نعل کے بال بھی استرے سے منڈے جائیں تو بھی حرج نہیں۔ ناف کے نیچے کے بال منڈنا سنت ہے قینچی سے کاٹنا نجوست کا سبب ہے۔ ہاتھوں پاؤں کے ناخن کٹوانا بھی سنت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سارے کام ہر ہفتہ میں ایک بار ضرور کرے اگر ہر ہفتہ نہ کر سکے تو چالیس دن سے زیادہ دیر نہ لگائے۔ مرد کو اپنے ہاتھ پاؤں میں ہندی لگانا زینت کیلئے منع ہے۔

## اسلامی لباس

اسلامی لباس یہ ہے کہ مرد کو ناف سے گھٹنے تک کا جسم ڈھکنا فرض ہے۔ اگر نماز میں کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی۔ اور نماز کے سوا بھی اگر چہ اکیلے میں ہی بلا وجہ کھولے تو گنہگار ہوگا۔ اس کے سوا باقی لباس میں بہتر یہ ہے۔ کہ بکڑی سر پر باندھے اور پوری آستین کی قمیص یا کرتہ پہنے



اور ٹخنوں سے اونچا تہ بند یا جامہ پہنے۔ ان کپڑوں کے سوا چکن، واسکت جو کچھ بھی پہنے وہ کافروں کے لباس کی طرح نہ ہو۔ پگڑھی کے نیچے ٹوپی ہونا چاہیے۔ اور اگر ٹوپی نہ ہو تو بھی سر کی کھوپڑی ڈھک لے۔ اگر کھوپڑی کھلی رہی اور اس پاس پگڑھی لپیٹی رہی تو سخت برا ہے اور اور اگر فقط ٹوپی اور ٹھے تو ایسی ٹوپی سے بچے جو کفار یا فاسقوں کی خاص ٹوپی ہے جیسے گاڑی کی پیٹ، ہندوانی گول ٹوپی۔ ایک قاعدہ یاد رکھو وہ یہ کہ جو لباس کافروں کی قومی نشانی ہو۔ اسکا استعمال مسلمانوں کو حرام ہے۔ جیسے پیٹ اور ہندوانی دھوتی وغیرہ اور جو لباس کہ کافروں کی مذہبی پہچان بن چکا ہے اسکا استعمال کفر ہے جیسے کہ ہندوانی چوٹی اور زتار اور عیسائی قوم کا صلیبی نشان وغیرہ یعنی جس لباس کو دیکھ کر لوگ جانیں کہ یہ ہندو یا عیسائی کا لباس ہے اس لباس سے مسلمانوں کو بچنا از حد ضروری ہے۔

دوسری ضروری باتیں اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا۔ اپنی بیوی بچوں کو نماز کا سخت پابند بناؤ۔ سات برس کے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ اور دس برس کے بچوں کو بار بار نماز پڑھاؤ۔ رات کو جلدی سو جاؤ صبح کو جلد جاگو اپنے بچوں کو جلد جاگو۔ کیونکہ وہ رحمت کے نازل ہونے کا وقت ہے۔ بچوں کو تعلیم دو کہ وہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کریں۔ اور صبح کے وقت تمہارے گھروں سے قرآن کریم کی آوازیں آتی ہوں۔ کہ قرآن شریف کی آواز مصیبتوں کو نکالتی ہے۔ جب ایک گھنٹہ ان نیک کاموں میں خرچ کرو۔ پھر اللہ کا نام لے کر دیناوی کاروبار میں مشغول ہو جاؤ عورتوں کا لباس دوسری فصل میں بیان کرو۔

## دوسری فصل عورتوں کا پردہ

عورتوں کے لئے پردہ بہت ضروری چیز ہے اور بے پردگی بہت ہی نقصان دہ ہے۔

قوم! اگر تو اپنی دینی اور دنیوی ترقی چاہتی ہے۔ تو عورتوں کی اسلامی حکم کے مطابق پرورے میں رکھو ہم اس کے متعلق ایک مختصر سی گفتگو کر کے پرورے کے عقلی اور نقلی دلائل اور بے پردگی کے نقصان بیان کرتے ہیں۔

قدرت نے اپنی مخلوق کو علیحدہ علیحدہ کاموں کے لئے بنایا ہے۔ اور جس کو جس کام کیلئے بنایا ہے۔ اس کے مطابق اس کا مزاج بنایا۔ ہر چیز سے قدرتی کام لینا چاہیے۔ جو خلاف فطرت کام لے گا۔ وہ خرابی میں پڑے گا۔ اسکی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ ٹوپی سر پر رکھنے اور جوتا پاؤں میں پہننے کیلئے ہے۔ جو جوتا سر پر باندھ لے اور ٹوپی پاؤں میں لگا لے وہ دیوانہ ہے۔ گلاس پانی پینے اور اگالڈان تھوکنے کے لئے ہے۔ جو کوئی اگالڈان میں پانی پئے اور گلاس میں تھو کے وہ پورا پاگل ہے۔ بیل کی جگہ گھوڑا اور گھوڑے کی جگہ بیل کام نہیں دے سکتا۔ اسی طرح انسان کے دو گروہ کئے گئے ہیں۔ ایک عورت دوسرے کو عورت کو گھر میں نہ کراندرونی زندگی سنبھالنے کیلئے بنایا گیا ہے اور مرد کو باہر پھوکر کھا اور باہر کی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے بنایا۔ مثل مشہور ہے کہ چھاس عورتوں کی کمائی میں دو برکت نہیں جو ایک کی کمائی میں ہے اور چھاس مردوں کے گھر میں رونق نہیں جو ایک گھر سے ہے۔ اسی لئے شوہر کے ذمہ بیوی کا سارا خرچ رکھا ہے۔ بیوی کے ذمہ شوہر کا مہر نہیں۔ کیونکہ عورت کمانے کیلئے بنی ہی نہیں۔ اسی لئے عورتوں کو وہ چیزیں دیں جس سے اس کو مجبوراً گھر میں بیٹھنا پڑے۔ اور مردوں کو اس سے آزاد رکھا۔ جیسے بچے جتنا جیض و نفاس آنا چوں کو روکھ پلاتا وغیرہ اسی لئے بچپن سے ہی لڑکوں کو بھاگ دوڑ، اچھل کود کے کھیل پسند ہیں۔ جیسے کبڈی۔ کسرت۔ ڈنڈ لگانا وغیرہ۔ اور لڑکیوں کو قدرتی طور پر وہ کھیل پسند ہیں۔ جن میں بھاگنا، دوڑنا نہ ہو۔ بلکہ ایک جگہ بیٹھا رہنا پڑے۔ جیسے گریبا سے کھیل سینا۔ پرونا۔ چھوٹی چھوٹی روٹیاں پکانا۔ آپ نے کسی چھوٹی بچی کو کبڈی کھیلتے ڈنڈ لگاتے نہ دیکھا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ قدرت نے لڑکوں کو باہر کیلئے اور لڑکیوں کو گھر کے اندر کیلئے پیدا کیا ہے۔ اب جو شخص عورتوں کو باہر نکالے

یا مرد نکواند رہنے کا مشورہ دے۔ وہ ایسا ہی دیوانہ ہے جیسا کہ جو ٹوپی پاؤں میں اور جوتا سر پر رکھے جب اپنے اتنا سمجھ لیا کہ مرد اور عورت ایک ہی کام کیلئے نہ بنے بلکہ علیحدہ علیحدہ کاموں کیلئے تو اب جو کوئی ان دونوں فریقوں کو ایک کام سپرد کرنا چاہے۔ وہ قدرت کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس کو بھی بھی کامیابی نہ ہوگی۔ گویا یوں سمجھو کہ عورت اور مرد زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ اندرونی اور گھریلو دونوں کیلئے عورت اور مرد باہر کیلئے اگر آپ نے عورت اور مرد دونوں کو باہر نکال دیا تو گویا آپ نے زندگی کی گاڑی کا ایک پہیہ نکال دیا۔ تو یقیناً گاڑی نہ چل سکے گی۔ اب ہم عقلی اور نقلی دلائل پر وہ کے متعلق عرض کرتے ہیں۔

(۱) سب مسلمان جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں ایسی مائیں کہ تمام جہان کی مائیں ان کے قدم پاک پر قربان۔ اگر وہ بیویاں مسلمانوں سے پردہ نہ کرتیں تو ظاہراً کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا تھا۔ کیونکہ اولاد سے پردہ کیسا۔ مگر قرآن کریم نے ان پاک بیویوں سے خطاب کر کے فرمایا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ - یعنی اسے نبی کی بیویوں کو اپنے گھروں میں چھتری رن کر دو۔ اور بے پردہ نہ رہو۔ جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی اس میں تو ان بیویوں سے کلام تھا۔ اب مسلمانوں سے حکم ہو رہا ہے: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ ۗ لَعَلَّ يَسْمَعْنَ كَلِمَ اللَّهِ فَخَفِيْنَ عَلَيْهِنَّ ۗ وَذَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ - یعنی ان سے کوئی استعمال کی چیز مانگو تو پردے کے بلپر سے مانگو۔ دیکھو بیویوں کو اُدھر گھروں میں روک دیا اور مسلمانوں کو باہر سے کوئی چیز مانگنے کا یہ طریقہ سکھایا۔

(۲) مشکوٰۃ باب النظر الی المخطوبہ میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دو بیویوں حضرت ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تشریف فرما تھے۔ کہ اچانک حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو کہ نابینا تھے آگئے۔ حضرت نے ان دونوں بیویوں سے فرمایا کہ اِحْتَجِبَا مِنْهُ ان سے پردہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہیں۔ فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو۔ اس سے

معلوم ہوا کہ صرف یہ ہی ضروری نہیں۔ کہ مرد عورت کو نہ دیکھے۔ بلکہ یہ بھی ضروری ہے۔ کہ اجنبی عورت غیر مرد کو نہ دیکھے۔ دیکھو یہاں مرد نایاب ہیں۔ مگر پردہ کا حکم دیا گیا۔

(۳) ایک لطافت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ آگے آگے حضرت انس حبشہ رضی اللہ عنہ کچھ گیت گاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لشکر کے ساتھ کچھ باپردہ عورتیں بھی ہیں۔ حضرت انس حبشہ بہت خوش آواز تھے۔ ارشاد فرمایا اسے انس حبشہ! اپنا گیت بند کر دو۔ کیونکہ میرے ساتھ کچی ٹیشیاں ہیں (دیکھو مشکوٰۃ باب البیان والشعر) اس میں عورتوں کے دلوں کو کچی ٹیشیاں فرمایا۔ جس سے معلوم ہوا ہے کہ پردہ میں رہ کر بھی عورت مرد کا اور مرد عورت کا اتنا نہ سننے (۴) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتوں کو بھی حکم تھا۔ کہ نماز عید اور دوسری نمازوں میں حاضر ہوا کریں۔ اسی طرح وعظ کے جلسوں میں شرکت کیا کریں کیونکہ اسلام بالکل نیا دنیا میں آیا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ عورتیں نہ سنتیں تو شریعت کے حکم اپنے لئے کیسے معلوم کرتیں۔ مگر پھر بھی انکے نکلنے میں بہت پابندیاں لگا دی گئی تھیں۔ کہ خوشبو لگا کر نہ نکلیں۔ بیچ راستہ کسی غیر سے بات نہ کریں فجر کی نماز اس قدر اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی کہ عورتیں پڑھ کر نکل جائیں اور کوئی پہچان نہ سکے عورتیں مردوں سے بالکل پیچھے کھڑی ہوتی تھیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانہ میں ان کو مسجدوں میں آنے اور عید گاہ جانے سے بھی روک دیا۔ عورتوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ ہم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیک کاموں سے روک دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اگر حضور علیہ السلام بھی اس زمانہ کو دیکھتے تو عورتوں کو مسجدوں سے روک دیتے دیکھو شامی وغیرہ۔ ان احادیث میں غور کرو۔ کہ وہ زمانہ نہایت خیر و برکت کا۔ یہ زمانہ شر و فساد کا۔ اس وقت عام مرد پر میزگاریاب نہایت آزاد اور قساق و قجاری۔ اس وقت عام عورتیں پاک و امن و حیا والی



اور شریلی۔ اب عام عورتیں بے غیرت، آزاد اور بے شرم جب اس وقت عورتوں سے پردہ کرایا گیا تو کیا یہ وقت اس وقت سے اچھا ہے؟ ہم نے مختصر طریقہ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں پردہ کی ضرورت بیان کی (۵) اب فقہ کی بھی سیر کرتے چلئے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ عورت کے سر سے نکلے ہو یاں اور پاؤں کے کٹھے

ہوتے ناخن بھی غیر مرد نہ دیکھے (دیکھو شامی) باب الستر، عورت پر جمعہ کی نماز فرض نہیں۔ عید بقر عید کی نماز واجب نہیں۔ کیوں؟ اسلئے کہ یہ نماز میں جماعت سے مسجدوں میں ہی ہوتی ہیں اور عورتوں کو بلا ضرورت شریعی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ عورت پر حج کیلئے سفر کرنا اس وقت تک فرض نہیں جب تک کہ اسکے ساتھ اپنا محرم نہ ہو یعنی باب، بیٹا یا شوہر وغیرہ عورت کا منہ غیر مرد نہ دیکھے (دیکھو شامی) باب الستر حضرت فاطمہؑ ہر ارضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے رات میں دفن کیا جائے گی، اسلئے کہ اگر وہ میں دفن کیا گیا۔ تو کم از کم دفن کرنے والوں کو میرے جسم کا اندازہ تو ہو جائیگا۔ یہ بھی منظور نہیں غرض کہ پردہ کی وجہ سے شریعت نے بہت سے حکم عورتوں سے اٹھائے۔

غور کرو۔ کہ جب عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں۔ قبرستان جانے کی اجازت نہیں۔ عید گاہ میں جا کر عید پڑھنے کی اجازت نہیں تو بازاروں، کالجوں اور کمپنی باغوں میں سیر کیلئے جانے کی اجازت کیونکر ہوگی۔ کیا بازار کالج اور کمپنی باغ مسجدوں اور مکہ شریف سے بڑھ کر ہیں؟ نوٹ ضروری۔ جن احادیث میں عورتوں کا باہر نکلنا آتا ہے۔ وہ یا تو پردہ فرض ہونے سے پہلے تھا یا کسی ضرورت کی وجہ سے پردہ کے ساتھ تھا۔ ان احادیث کو بغیر سوچے سمجھے بوجھ بے پردگی کیلئے اڑبانا محض نادانی ہے۔ اسی طرح اس زمانہ میں عورتوں کا جہادوں میں شرکت کرنا اس وجہ سے تھا۔ کہ اس وقت مردوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ اب بھی اگر کسی جگہ مسلمان مرد تھوڑے ہوں اور کفار زیادہ اور جہاد فرض عین ہو جائے تو عورتیں جہاد میں ضرور جائیں ان جہادوں کو اس زمانہ کی بے حیائی کیلئے اڑبنا۔ اب جہاد کے بہانے سے عورتوں کو مردوں کے سامنے

ننگا پریدہ کرایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ مجاہدین نے ضرورتاً گھوڑوں کے پیشانی پر درختوں کے پتے کھائے  
 کیا اب بھی بلا ضرورت یہ کام کرانے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت لاتے ہیں جب وہیں عورتوں کی ضرورت پڑے  
 یہاں تک تو نقلی دلائل سے ہم نے پردہ کی ضرورت ثابت کر دی۔ اب عقلی دلیلیں بھی سینے۔  
 (۱) عورت گھر کی دولت ہے اور دولت کو چھپا کر گھر میں رکھا جاتا ہے ہر ایک کو دکھانے سے منہ  
 ہے۔ کہ کوئی چوری کرے۔ اسی طرح عورت کو چھپانا اور غیروں کو نہ دکھانا ضروری ہے۔

(۲) عورت گھر میں اسی ہے۔ جیسے چمن میں پھول اور پھول چمن میں ہی ہر بھرا رہتا ہے اگر توڑ کر باہر لایا گیا تو  
 مرجھا جائیگا۔ اسی طرح عورت کلچر چمن اس گھر اور اسکے بال بچے میں اسکو بلا دہر باہر نہ لاؤ ورنہ مرجھا جائے گی  
 (۳) عورت کا دل نہایت نازک ہے۔ بہت جلد ہر طرح کا اثر قبول کر لیتا ہے۔ اسلئے اس کو کچی  
 شیشیاں فرمایا گیا۔ ہمارے یہاں بھی عورت کو صنف نازک کہتے ہیں اور نازک چیزوں کو پتھروں سے دور  
 رکھتے ہیں۔ کہ ٹوٹ نہ جائیں غیروں کی نگاہیں۔ اس کیلئے مضبوط پتھر ہے۔ اسلئے اس کو غیروں سے بچاؤ۔  
 (۴) عورت اپنے شوہر اور اپنے باپ دوا بلکہ سارے خاندان کی عزت اور آبرو ہے۔ اور اس کی  
 مثال سفید کپڑے کی سی ہے سفید کپڑے پر معمولی سا داغ دھبہ دور سے چمکتا ہے اور غیروں کی  
 نگاہیں اسکے لئے ایک بدنام داغ ہے۔ اس لئے اس کو ان دھبوں سے دور رکھو۔

(۵) عورت کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ اس کی نگاہ اپنے شوہر کے سوا کسی پر نہ ہو۔ اسلئے قرآن  
 کریم نے حوروں کی تعریف میں فرمایا قِصْرَاتُ الطَّارِفِ۔ اگر اس کی نگاہ میں چند مرد آگئے تو یوں سمجھو  
 کہ عورت اپنے شوہر کو چکی۔ پھر اس کا دل اپنے گھر بار میں نہ لگے گا۔ جس سے یہ گھر آخر تباہ ہو جائیگا۔  
**اعتراف**۔ بعض لوگ پردہ کے مسئلہ پر دواعی عرض کرتے ہیں۔ اول یہ کہ عورتوں کا گھر میں قید  
 رکھنا ان پر ظلم ہے۔ جب ہم باہر کی ہر رکھاتے ہیں۔ تو انکو اس نعمت سے کیوں محروم رکھا جائے دوسرے  
 یہ کہ عورت کو پردے میں رکھنے کی وجہ اس کو بے وقوف ہو جاتی ہے اسلئے ضروری ہے انکو باہر نکالا جائے۔

جواب ۱۔ اول سوال کا جواب تو یہ ہے کہ گھر عورت کیلئے قید خانہ نہیں بلکہ اس کا چمن ہے۔ گھر کے کاروبار اور اپنے بال بچوں کو دیکھ کر وہ ایسی خوش رہتی ہے جیسے چمن میں بلبل گھر میں رکھنا اس پر ظلم نہیں بلکہ عزت و عصمت کی حفاظت ہے۔ اس کو قدرت نے اسی لئے بنایا ہے بکری اسی لئے ہے کہ رات کو گھر میں رکھی جائے اور شیر چلتے اور محافظت کا اس لئے ہے کہ انکو آواز دہرا یا جائے اگر بکری کو آواز دیا تو اس کی جان خطرے میں ہے۔ اسکو شکاری جانور بھاڑ ڈالیں گے۔

دوسرے سوال کا جواب میں کیا دوں خود تجربہ دے رہا ہے وہ یہ کہ عورت کیلئے پردہ تہدق کا سبب نہیں۔ ہماری پرانی بزرگ عورتیں گھر کے دروازے سے بھی بے خبر تھیں مگر وہ جانتی بھی نہ تھیں کہ وق کسے کہتے ہیں اور آج کل بے پردگی میں اول نمبر و صوبہ میں ایک کاٹھیا واڑ۔ دوسرا پنجاب۔ مگر اللہ تعالیٰ کا شان ہے کہ ان ہی دونوں صوبوں میں وق زیادہ ہے۔ یوپی میں عام طور پر شریفیوں کی بہو بیٹیاں پردہ نشین ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان میں وق بہت ہی کم ہے بلکہ اگر کہا جائے کہ وق ہے ہی نہیں تو بھی بے جا نہ ہوگا۔ جناب اگر پردہ سے وق پیدا ہوتی ہے تو مردوں کو وق کیوں ہوتی ہے۔

دوستو! وق کی وجہ کچھ اور ہے یاد رکھو! تندرستی کے دو بڑے اصول ہیں۔ ان کی پابندی کرو۔ انشاء اللہ تندرست رہو گے۔ اول یہ کہ بھوکے ہو کر کھاؤ اور پیٹ بھر کر نہ کھاؤ بلکہ روٹی سے بھوکے اٹھو۔ اور دوسرے یہ کہ تھک کر سوو۔ پہلے عورتیں چائے کو جانتی بھی نہ تھیں۔ گھر میں محنت مشقت کے کام کرتی تھیں۔ چکی پیسنا۔ غلہ صاف کرنا۔ خوب پسینہ آتا تھا۔ بھوک کھل کر لگتی تھی اور رات کو چائے کی خوب بیہوشی کی نیند آتی تھی اسلئے تندرست رہتی تھیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پردہ والی عورتیں ہشاش بشاش معلوم ہوتی ہیں۔ ان کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں۔ مگر آوارہ اور بے پردہ عورتیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جیسے کہ اس پھول کو ٹولگ گئی ہے۔ دوستو! یہ سب بہانہ ہیں ضروری

ہے کہ مکان کھلے ہو اور صاف ہوں، اپنے مکانوں کے صحن بڑے بڑے اور کھلے ہوتے ہو اور رکھو۔ اور عورتوں، بچوں کو چاہا اور دوسری خشک چیزوں سے بچاؤ اور دودھ گھی وغیرہ کا استعمال رکھو۔ عورتوں کو آرام طلب نہ بناؤ۔

**اسلامی پردہ اور طریقہ زندگی**۔ عورت کا جسم سر سے پاؤں تک ستر ہے جس کا چھپانا ضروری ہے۔ سواہ چہرے اور کلائیوں تک ہاتھوں اور ٹخنے سے نیچے تک پاؤں کے کہ ان کا چھپانا نماز میں فرض نہیں باقی حصہ اگر کھلا ہوگا تو نماز نہ ہوگی۔ لہذا اسکا لباس ایسا ہونا چاہیے جو سر سے پاؤں تک اس کو ڈھکا رکھے۔ اور اسقدر باریک کپڑا نہ پہنے جس سے سر کے بال یا پاؤں کی پنڈلیاں یا پیٹ اوپر سے معلوم ہو گھر میں اگر کیلی یا شوہر یا ماں باپ کے سامنے ہو تو دوپٹہ اتار سکتی ہے لیکن اگر داماد یا دوسرا اقربا سے دار ہو تو ہر باقاعدہ ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے اور شوہر کے سوا جو بھی گھر میں آئے وہ آواز سے خبر کر کے آئے! اجنبی عورت کو سوائے چند صورتوں کے دیکھنا منع ہے۔ (۱) طبیب مریضہ کے مرض کی جگہ کو (۲) جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اس کو چھپ کر دیکھ سکتا ہے۔ (۳) گواہ جو عورت کے متعلق گواہی دینا چاہے (۴) قاضی جو عورت کے متعلق کوئی حکم دینا چاہے۔ وہ بھی بقدر ضرورت دیکھ سکتا ہے۔ آوارہ عورتوں سے بھی شریف عورتیں پردہ کریں۔ (۵) رختار عورت کو اپنے گھر سے نکلنا بھی منع ہے۔ سوائے چند موقعہ کے (۱) قابلہ یعنی والی پیشہ کرنے والی عورت گھر سے نکل سکتی ہے (۲) شاہدہ گواہی دینے کے لئے عورت قاضی کے دربار میں جاتی ہے (۳) فاسلہ جو عورت مردہ عورتوں کو غسل دیتی ہے۔ وہ بھی اس ضرورت سے نکل سکتی ہے (۴) کاسبہ جس عورت کا کوئی کمائی کرنے والا نہ ہو وہ روزی حاصل کرنے کے لئے گھر سے نکل سکتی ہے (۵) زائرہ۔ والدین اور خاص اہل قرابت سے ملنے کے لئے بھی گھر سے نکل سکتی ہے وغیرہ اگر اس کی پوری تحقیق کرنا ہو۔ تو اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی کتاب مروج النجال شرح الوج النساء کا



مطالعہ کرو۔ ہم نے جو کہا کہ ان موقعوں میں عورت گھر سے نکل سکتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ پردہ سے نکلے۔ اس طرح نہ نکلے جیسے آج کل رواج ہے کہ یا تو بے برقع باہر پھرتی ہیں یا اگر برقع ہے تو منہ کھلا ہوا اور برقع بھی نہایت خوش نما اور چمکدار کہ دوسرے مردوں کی اس پر خواہ مخواہ نظر پڑے۔ یہ جائز نہیں یہ احکام تھے گھر سے باہر نکلنے کے اب رہا سفر کرنا۔ اس کے متعلق یہ ضروری یاد رکھو کہ عورت کو کیلے یا کسی اجنبی مرد کے ساتھ سفر کرنا حرام ہے۔ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ آجکل جو رواج ہو گیا ہے۔ کہ گھر کو خط لکھ دیا کہ ہم نے اپنی بیوی کو فلاں گاڑی پر سوار کر دیا ہے۔ تم اسٹیشن پر آ کر اتار لینا۔ یہ ناجائز بھی ہے اور خطرناک بھی دیور اور ہینوتی وغیرہ سے بڑے بڑے گھروں میں بھی پردہ نہیں بلکہ بعض عورتیں تو کہتی ہیں کہ ان سے پردہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ محض غلط ہے حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ **الْحَمْدُ لِلَّهِ** دیور تو اور بھی زیادہ موت ہے بعض جگہ ان سے منہسی اور مذاق تک کیا جاتا ہے خیال رکھو کہ جس عورت سے کبھی بھی نکاح ہو سکے اس سے پردہ ضروری ہے کہ وہ اجنبی ہے اور جس سے کبھی بھی نکاح جائز نہ ہو جیسے داماد، رضاعی، بیٹا، باپ، بھائی، خسر وغیرہ۔ ان سے پردہ ضروری نہیں۔ اگر ان لوگوں سے باقاعدہ پردہ نہ ہو سکے تو کم از کم گھونگھٹ سے رہنا اور ان کے سامنے حیا اور شرم سے رہنا ضروری ہے ایسا باریک لباس نہ پہنوں جس سے تنگی معلوم ہو اور ایسا لباس نہ پہنوں جو پنڈلیوں سے بالکل چھپ جاتا ہو اور جس سے بدن کا اندازہ ہوتا ہو۔ ہاں اگر اس گھر میں سوائے شوہر وغیرہ کے کوئی اجنبی نہ آتا ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ مگر ایسے گھر آجکل مشکل سے ملیں گے۔ ڈاکٹر اقبال نے خوب کہا ہے۔

چو زہرا بائش از مخلوق روپوش چہ در آغوش شبیرے بہ بینی

یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح اللہ والی پردہ دار بنتا کہ اپنی گود میں امام حسین

رضی اللہ تعالیٰ جیسی اولاد دیکھو =

لڑکیوں کی تعلیم۔ اپنی لڑکی کو وہ علم و ہنر ضرور سکھا دو۔ جس کی اس کو جوان ہو کر ضرورت پڑے گی۔ لہذا سب سے پہلے لڑکی کو پاکی پلیدی حیض و نفاس کے شرعی مسئلے روزہ۔ نماز، زکوٰۃ وغیرہ کے مسئلے پڑھا دو۔ یعنی قرآن شریف اور نیات کے نصاب پڑھا دو۔ پھر کچھ ایسی اخلاقی کتابیں جن میں شوہر کے حقوق بجالانے بچوں کے پالنے، ساس نندوں سے میل و محبت رکھنے کے طریقے سکھائے گئے ہوں بھی ضرور پڑھا دو۔ بہتر یہ ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بھی مطالعہ کراؤ۔ جس سے دنیا میں رہنے بہنے کا ڈھنگ آجائے۔ اس کے بعد ہر طرح کا کھانا پکانا بقدر ضرورت سینا پرونا اور دوسری زنانہ دستکاری اور سوئی کا ہنر ضرور سکھا دو۔ کیونکہ سوئی ہی وہ چیز ہے جس کی ضرورت مرنے کے بعد بھی پڑتی ہے۔ یعنی مردہ سلا ہوا کفن میں کہ قبر میں جاتا ہے۔ سوئی عورتوں کا خاص ہنر ہے۔ کہ اگر (خدا نہ کرے) کبھی عورت پر کوئی مصیبت پڑ جائے یا بیوہ ہو جائے اور کسی مجبوری کی وجہ سے دوسرا نکاح نہ کر سکے تو گھر میں آبرو سے بیٹھ کر اپنی دستکاریوں سے پیٹ پال سکے۔ آج کل کھانا پکانے اور سینے پر رونے کی بہت سی کتابیں چھپ چکی ہیں۔ چنانچہ دہلی کا باورچی خانہ۔ خزان نعمت، خزان نغما۔ کھانے پکانے کے ہنر کے لئے ضرور پڑھا دو۔ بلکہ ان سے ہر طرح کا کھانا پکوالو۔ اور دستوبہین چیزوں سے اپنی لڑکیوں اور بیویوں کو بہت بچاؤ ایک ناول دوسرے کالج اور سکولوں کی تعلیم تیسرے تھیٹر اور سینما۔ یہ تین چیزیں لڑکیوں کے لئے زہر قاتل ہیں۔ اس وقت لڑکیوں میں جس قدر شوخی، آزادی اور بے غیرتی ہے۔ وہ سب ان تین ہی کی وجہ سے ہے۔ ہم نے دیکھا کہ لڑکیوں کے لئے پہلے تو زمانہ اسکول کھلے اور ان میں پردہ دار گاڑیاں بچپوں کو لانے اور لے جانے کے لئے رکھی گئیں اگرچہ ان میں کانا پردہ تھا۔ مگر خیر کچھ بار اور شرم تھی۔ پھر وہ گاڑیاں بند ہوئیں اور صرف ایک عورت جس کو ماں کہتے تھے لانے اور پہنچانے کے لئے رکھی گئی۔

پھر وہ بھی ختم۔ صرف یہ رہا کہ جوان لڑکیاں برقعہ پہن کر آئیں۔ پھر یہ بھی ختم ہوا۔ از اوانہ طور سے آنے جانے لگیں۔ بھ عقل کرا۔ پھر انہوں نے لڑکیوں اور لڑکوں کی ایک ہی جگہ تعلیم شروع کر دی اور تیار و ایکٹ جاری کرایا۔ جس کے معنی یہ تھے کہ اٹھارہ سال سے پہلے کوئی نکاح نہ کر سکے پھر لڑکیوں اور لڑکوں کو سینما کے عشقہ ڈرامے دکھائے۔ یہ وہ ناولوں کی روک تھام نہ کی جس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ ان کے جذبات کو بھڑکایا گیا۔ اور نکاح روک کر بھڑکے ہوئے جذبات کو پورا ہونے سے روک دیا گیا جس کا منشا صرف یہ ہے کہ حرام کاری بڑھے۔ کیونکہ بھڑکی ہوئی شہوت جب حلال راستہ نہ پائے گی۔ تو حرام کی طرف خوج ہوگی۔ اور ایسا ہورہا ہے۔ اب اس وقت یہ حالت ہے۔ کہ جب اسکولوں، کالجوں کی لڑکیاں صبح شام زرق برق لباس میں راستوں سے آپس میں مذاق دل لگی کرتی ہوئی زور سے باتیں کرتی ہوئی عطر لگائے، دوپٹہ سر سے اتارتے ہوئے نکلتی ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے۔ کہ شاید ہندوستان میں پیرس آگیا۔ اور روہ مندول رکھنے والے خون کے آنسو روتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے خوب فرمایا ہے۔

بے پروہ مجھ کو آئیں نظر چند بیدیاں \* اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گیا!  
پوچھا جوان سے آپ کا پروہ کدھر گیا \* کہنے لگیں کہ عقل پہ مرووں کے پڑ گیا  
کوشش کرو کہ تمہاری لڑکیاں حیا دار اور ادب والی بنیں۔ تاکہ ان کی اولاد میں یہ اوصاف پائے جائیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے

بے ادب ماں یا ادب اولاد جن سکتی نہیں \* معدن زر معدن فولاد بن سکتی نہیں  
یاد رکھو کہ اس زمانہ میں ان سکولوں اور کالجوں نے قوم میں انقلاب پیدا کر دیا ہے آج طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی قوم کا نقشہ بد بنا ہو تو اس قوم کے بچوں کو کالج کی تعلیم دلاؤ۔ بہت جلد اس قسم کی حالت بدل جاوے گی۔ کبر نے خوب کہا ہے۔

یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا ۔ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی اور دوستوں بعض سکولوں اور کالجوں کے نام میں اسلام کا نام بھی لگا ہوتا ہے یعنی ان کا نام ہوتا ہے۔ اسلامیہ سکول، اسلامیہ کالج اس نام سے دھوکہ نہ کھاؤ اسلامیہ سکول، اسلامیہ کالج نام رکھنا فقط مسلم قوم سے اسلام کے نام پر چندہ وصول کرنے کے لئے ہے۔ ورنہ کام سب کالجوں کا قریب قریب یکساں ہے۔ غضب تو دیکھو کہ نام اسلامیہ سکول اور تعطیل ہوتی ہے انوار کے دن۔ اسلام میں تو بڑا دن جمعہ کا ہے۔ بہر کام انگریزی میں، وہاں کے طلباء کے اخلاق اور عادات انگریزی۔ پھر یہ اسلامیہ سکول کہاں رہا۔ بعض سکولوں کے نام بجائے اسلامیہ سکول کے محمدن سکول یا محمدن کالج رکھ دیئے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کا نام رکھا ہے "مسلمین" قرآن فرماتا ہے **هُوَ سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ**۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ مگر عیسائیوں کی طرف سے ہمارا نام محمدن رکھا گیا۔ ہم لوگوں کو وہی نام پسند آیا۔ جو کہ عیسائیوں نے ہم کو دیا۔ غرضیکہ ان سکولوں سے اپنی لڑکیوں کو بچاؤ اور اپنے لڑکوں کو بھی وہاں تعلیم ضرور دلاؤ۔ مگر ان کا دین و مذہب سنہال کی سی طرح لڑکیوں کو گھر پر جو ماسٹروں سے پڑھواتے ہیں۔ یا عیسائی عورتوں یا لیدیوں سے تعلیم دلاتے ہیں۔ وہ بھی سخت غلطی کرتے ہیں۔ بہت جگہ دیکھا گیا۔ کہ لڑکیاں ماسٹروں کے ساتھ بھاگ گئیں اور ان آوارہ انسانوں کے ذریعہ سے ہزار ہاقتے پھیلے۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہوتا۔ کہ آخر لڑکیوں کو اس قدر اعلیٰ تعلیم کی ضرورت کیا ہے۔ ان کو تو وہ چیزیں پڑھاؤ۔ جس سے ان کو کام کرنا پڑتا ہے۔ ان کا سارا خرچہ تو شوہروں کے ذمہ ہوگا۔ پھر ان کو اس قدر تعلیم سے کیا فائدہ ہے؟ غرضیکہ اپنی اولاد کو دین دار اور بہر مند بناؤ کہ اس میں دین دنیا کی بھلائی ہے اپنی لڑکیوں کو صرف خاتونِ جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر چلاؤ۔ ان کی پاک زندگی کا نقشہ وہ ہے جو ڈاکٹر اقبال نے اس طرح بیان فرمایا ہے

اَلْاَدَبُ پَرُوْرَةٌ شَرْمٌ وَحِيَا ۝ اَيَا كُرْوَانَ وِلْبِ قُرْآنِ سِرَا



آتشین و نوریان فرماں بردار : گم رضائش در رضا شو ہر ش  
ہاتھ میں چکی اور منہ قرآن دونوں جہان ان کی فرمانبردار اور ذمہ دار کی مطیع۔

## ناپسندیدہ رسوم

ہر شخص کو ایک دن مرنا اور اس دنیا سے جانا ہے اور کیا خیر ہے کہ کس کی موت کس جگہ اور کس وقت آجائے۔ اسلئے ہر مسلمان کو لازم ہے میت کے غسل اور کفن و دفن کے مسائل سیکھے کہ اگر کسی جگہ ضرورت پڑ جائے۔ تو اس کا کام نہ رکے۔ ہم نے آج یہ سمجھ رکھا ہے کہ میت کا غسل اور کفن صرف ملاں کا کام ہے۔ ہماری اس میں بے عزتی ہے لیکن اگر کسی کا باپ یا کوئی قرابت دار مر جاوے اور وہ اپنے ہاتھ سے اس کو قبر تک پہنچانے کا سامان کر دے تو اس میں بے عزتی کیا ہوگی؟ کیا باپ کے مرنے کے بعد اس کو چھونا بھی بے عزتی ہے۔

ایک مسلمان صاحب بہادر کا انتقال نئی دہلی میں ہو گیا۔ وہ حضرت پنجاب کے رہنے والے تھے۔ وہاں کوئی غسل دینے والا نہ ملا۔ بہت دیر تک ان کے والد کی لاش بے غسل پڑی رہی۔ ضلع بدایوں میں ایک جگہ ایک شخص کے والد کا فاتحہ تھا۔ چونکہ وہ مجمع صاحب بہادروں کا تھا۔ کسی کو قرآن پاک پڑھنا آتا تھا۔ اب بڑی مشکل پڑی۔ آخر کار فونوگراف میں سورہ یسین کا ریکارڈ بجا کر اس ریکارڈ کا ثواب مرثیہ باپ کی روح کو پہنچایا گیا۔ یہ دو باتیں ہیں جس پر مسلمانوں کی حالت پر ماتم کرنا پڑتا ہے اسلئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ موت اور میراث کے ضروری مسئلے مسلمان سیکھیں اور ان تمام مسائل کے لئے "پہلا شمارہ شریعت" کو مطالعہ میں رکھیں۔

ہم کو اس جگہ ان رسموں سے گفتگو کرنی ہے جو مسلمانوں میں ناجائز یا فضول خیریتوں کی طہنی ہوتی ہیں۔ یہ رسمیں دو طرح کی ہیں۔ ایک تو موت کے وقت اور دوسرا موت کے بعد۔

**موت کے وقت کی رسمیں** : عام طور پر یہ رواج ہے کہ میت کے مرتے وقت جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں دنیاوی باتیں کرتے ہیں جب انتقال ہو جاتا ہے۔ تو روتے پیٹنے کی حالت میں بے صبری اور بعض وقت کفر کے کلمے منہ سے نکال دیتے ہیں۔ کہ ہائے خدائے بے وقت موت دیدی ملک الموت نے ظلم کر دیا۔ کیا ہمارا ہی گھر موت کے لئے رہ گیا تھا۔ وغیرہ مرچکنے کے بعد جو خویش واقربا باہر پردیس میں ہوتے ہیں۔ ان کو تار سے خبر دیتے ہیں۔ پھر ان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ پنجاب میں یہ بیماری بہت ہے۔ میں نے بعض جگہ دیکھا ہے۔ کہ دو دن تک لاش رکھی رہتی جب خویش واقربا آئے تب دفن کیا گیا۔ پھر جس قوم یا جس محلہ میں موت ہو گئی وہاں ساری قوم اور سارا محلہ روٹی نہ پکانے اب ایک دن میت پڑی رہی تو زندوں کی بھوک کے مارے ادھی جان کھل گئی۔ اب جبکہ دفن سے فراغت ہو چکی تو کسی قرابت دار نے ان سب کے لئے روٹی پکائی اور روٹی پکانے پر یہ ضروری ہے کہ ان تمام لوگوں کے لئے کھانا پکائے۔ جن کے گھر اب تک دفن کے انتظام میں روٹی نہ پکی تھی۔ یعنی ساری بلوچی یا سارے محلے کے لئے۔

یوپی میں بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ موت کی روٹی محلہ داروں کو رات اٹھا اٹھا کر پہنچاتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر نہ پہنچے تو اس کی سخت شکایت ہوتی ہے۔ جیسے کہ شادی کی روٹی کی شکایت ہوتی ہے۔ پنجاب میں یہ بھی رواج ہے کہ میت کے ساتھ ایک دیگ چاولوں کی پک کر قبرستان جاتی ہے جو کہ دفن کے بعد وہاں قفر کو تقسیم کر دی جاتی ہے اور یوپی میں کچا غلہ اور پیسے لیجاتے ہیں جو قبرستان میں تقسیم ہوتے ہیں ان رسموں کی سزائیاں انسان کے لئے نزع کا وقت بہت سخت وقت ہے کہ عمر بھر کی کمائی کا پتھر اس وقت ہو رہا ہے۔ اس وقت قرابت داروں کا وہاں دنیاوی باتیں کرنا سخت غلطی ہے۔ کیونکہ اس سے میت کا دھیان ہٹنے کا اندیشہ ہے فقط آنکھوں سے آنسو بہیں یا معمولی آواز منہ سے نکلے اور کچھ صبر وغیرہ کے لفظ بھی منہ سے نکل جاویں تو کوئی حرج نہیں۔ مگر بیٹنا منہ پر طمانچہ

مارنا۔ بال نوچنا۔ کپڑے پھاڑنا۔ بے صبری کی باتیں منہ سے نکالنا نوحہ ہے اور نوحہ حرام، نوحہ کنوینا  
 سخت گتہ کار ہیں۔ یہ سمجھ لو۔ کہ نوحہ کرنے اور نوچنے، پیٹنے سے مروہ واپس نہیں آجاتا۔ بلکہ صبر کا  
 جو ثواب ملتا ہے وہ بھی جاتا رہتا ہے۔ دوسری وقت امتحان کے ہوتے ہیں۔ ایک خوشی کا۔ دوسرا  
 غم کا۔ جوان وقتوں میں قائم رہا وہ واقعی مروہ ہے۔ مصیبت کے وقت یہ خیال رکھو کہ جن رب نے  
 عمر بھر آرام دیا۔ اگر وہ کسی وقت کوئی رنج یا غم بھیج دے تو صبر چاہیے۔ کسی قرابت دار کے آنے کے  
 انتظار میں میت کے دفن میں دیر لگانا سخت منع ہے اور اس میں ہر طرح کا خطرہ ہی ہے اگر زیادہ رکھنے  
 سے میت کا جسم بگڑ جاوے یا کسی قسم کی بو وغیرہ پیدا ہو جاوے یا کسی قسم کی خرابی وغیرہ پیدا ہو جاوے۔  
 تو اس میں مسلمان میت کی توہین ہے۔ قرابت دار اگر میت کو زندہ نہیں کر لیں گے اور منہ دیکھ کر  
 بھی کیا کریں گے۔ اس لئے دفن میں جلدی کرنا ضروری ہے۔ چند چیزوں میں بلاوجہ دیر لگانا  
 منع ہے لڑکی کی شادی، قرض کا ادا کرنا، نماز کا پڑھنا۔ توبہ کرنا۔ میت کو دفن کرنا نیک کام  
 کرنا کسی کے مرتے سے محلہ میں روٹی پکانا یا کھانا منع نہیں ہو جاتا۔ ہاں چونکہ میت کے خاص  
 رشتہ دار دفن میں مشغول ہونے اور زیادہ رنج و غم کی وجہ سے کھانا نہیں پکاتے ان کیلئے کھانا تیار  
 کرنا بلکہ انہیں اپنے ساتھ کھلانا سنت سے۔ مگر خیال رہے کہ کھانا صرف ان لوگوں کیلئے پکایا جائے  
 اور وہی لوگ کھائیں جو رنج و غم کی وجہ سے گھر نہ پکاسکیں محلہ والوں اور برادری کو رسمی طریقہ پر کھلانا بھی  
 جائز ہے اور کھانا بھی غم اور رنج و غم توں کا وقت نہیں۔ میت کے ساتھ دیگ یا کچھ غلہ لے جانے میں  
 حرج نہیں مگر دو باتوں کا ضرور خیال رہے اول یہ کہ لوگ اس خیرات کو اتنا ضروری نہ سمجھیں کہ نہ ہو تو عرض  
 لے کر کریں۔ اگر میت کے وارثوں میں سے کوئی وارث بچہ ہو یا کوئی سفر میں ہو تو میت کے مال سے یہ خیرات  
 نہ کریں بلکہ کوئی شخص اپنی طرف سے کرے۔ دوسرے یہ کہ قبرستان میں تقسیم کرتے وقت یہ خیال رکھا جاوے  
 کہ فقرا و غریب قبروں کو پاؤں سے نہ روندیں اور یہ کھانا یا غلہ نیچے نہ گرے۔ بہتر تو یہ ہی ہے کہ گھر پر ہی

خیرات کر دی جائے۔ کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ خیرات لینے والے فقرا غلہ لینے کے لئے قبروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور چاول وغیرہ بہت خراب کرتے ہیں۔

**موت کے وقت کی اسلامی رسمیں**۔ جان کنی کی نشانی یہ ہے کہ بیمار کی ناک ٹیڑھی پڑ جاتی ہے اور پٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ جب یہ علامت بیمار میں دیکھ لی جائے تو فوراً اس کا منہ کعبہ شریف کو کر دیا جائے یا تو اسکی چار پائی قبر کی طرح رکھی جائے یعنی شمال کو سر اور جنوب (دکن) کو پاؤں اور میت کو سیدھی کروٹ پر لٹا دیا جائے۔ مگر اس سے جان نکلنے میں دشواری ہوتی ہے۔ بہتر ہے کہ میت کے پاؤں قبیلہ کی طرف کر دیئے جائیں اور اس کو چپٹ لٹا دیا جائے تاکہ کعبہ منہ ہو جاوے۔ کروٹ کی ضرورت نہ رہے۔ چند جگہ کعبہ کی طرف پاؤں کرنا جائز ہیں (۱) لیٹ کر نماز پڑھتے وقت (۲) جان نکلنے کے وقت (۳) میت کو غسل دیتے وقت (۴) اور قبرستان لے جاتے وقت جبکہ قبرستان مشرق کی طرف ہو۔ پھر اس کے پاس بیٹھنے والے کوئی دنیاوی بات نہ کریں۔ اور اس وقت خود بھی نہ رویں۔ بلکہ سب لوگ اس قدر آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں کہ میت کے کان میں وہ آواز پہنچتی رہے۔ اور کوئی شخص اس وقت منہ میں پانی ڈالتا رہتے کیونکہ اس وقت پیاس کی شدت ہوتی ہے۔ اگر گرمی زیادہ پڑ رہی ہو تو کوئی پنکھے سے ہوا بھی کرتا رہے۔ سورہ یسین شریف پڑھیں تاکہ اس کی شکل آسان ہو اور رب تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کا اور ہم سب کا بڑا پار لگائیو۔ اللہم ربنا امر ذمنا حسن الخاتمة ط جب جان نکل جاوے تو کسی کو رونے سے نہ رویں۔ کیونکہ زیادہ غم پر نہ رونا سخت بیماری پیدا کرتا ہے۔ ہاں یہ حکم دیں کہ نوحہ نہ کریں یعنی منہ پر تھپڑ نہ لگائیں اور بے صبری کی باتیں نہ کہیں۔ غسل اور کفن سے فارغ ہو کر نعت خوانی کرتے ہوئے یا بلند آواز سے ورد شریف اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے میت کو رے چلیں کیونکہ آج کل اگر ذکر الہی آواز سے نہ ہو تو لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور یہ منع ہے۔ نیز اس نعت خوانی اور ورد شریف کی آواز سے گھروں میں لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی میت جا رہی ہے۔ تو اگر نماز اور دفن



میں شریک ہو جاتے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھ کر کم از کم تین بار قل هو اللہ اور سورہ فلق۔ سورہ ناس اور سورہ فاتحہ پڑھ کر میت کو ثواب بخشیں کہ جنازہ کی نماز کے بعد دعا کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہؓ ہے۔ دیکھو ہماری کتاب جبار الحق،

دفن سے فارغ ہو کر قبر کے سر ہانے سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں مقلعون تک اور قبر کے پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کا آخری کوع پڑھ کر میت کو ثواب بخشیں۔ جب دفن سے فارغ ہو کر لوگ لوٹ جاویں تب قبر کے سر ہانے کی طرف گھر سے ہو کر اذان کہہ دیں تو اچھا ہے کہ اس سے غدا قبر سے نجات ہے اور مردہ کو نکیرین کے سوالات کا جواب بھی یاد آجائے گا۔ پھر قرابت دار میت کے صرف گھر والوں کو کھانا کھلا دیں۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ پکا کر لائیو والا خود بھی ان کے ساتھ ہی کھاوے اور انکو مجبور کر کے کھلاوے۔

**موت کے بعد کی مروجہ رسمیں:**۔ موت کے بعد ہر علاقہ میں علیحدہ علیحدہ رسمیں ہوتی ہیں۔ مگر کچھ رسمیں ایسی ہیں جو تھوڑے فرق سے ہر جگہ ادا کی جاتی ہیں۔ ان ہی کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔

دولہن کا کفن اس کے میکے سے آتا ہے۔ یعنی یا تو اس کے ماں باپ کفن خرید کر لاتے ہیں۔ یا بعد کو اس کی قیمت دیتے ہیں۔ اسی طرح دفن اور تقریباً موت کا تین دن تک کا سارا خرچہ میکے والے کرتے ہیں۔ دولہن کی اولاد کا کفن بھی میکے والوں کی طرف سے ہونا ضروری ہے۔ تین دن میت والوں کے گھر قرابت داروں اور خاص کر سمدھیاء سے کھانا آنا ضروری ہے۔ اور کھانا بھی اتنا زیادہ لانا پڑتا ہے۔ کہ سارے کنبے بلکہ ساری برادری کو کافی ہو۔ پھر وقت کھانا بھیجنا پڑتا ہے۔ اگر کچھ مجلسیں آومیوں کا ہر وقت کھانا پکایا گیا۔ تو اس قحط سالی کے زمانہ میں کم از کم پچاس روپیہ خرچ ہوا۔ پھر جب خیر سے یہ تین دن گذر گئے تو اب میت والوں کے ذمہ لازم ہے۔ کہ تیسرے دن تہجد سوئم کرے جس میں ساری برادری بلکہ ساری بستی کی روٹی کرے۔ جس میں لمیر وغریب دولت مند لوگ ضرور شریک ہوں اور غضب یہ کہ بہت جگہ یہ برادری کی دعوت خود میت کے مال سے ہوتی ہے۔ حالانکہ میت کے

چھوٹے یتیم بچے، بیوہ اور غریب۔ بوڑھے ماں باپ بھی ہوتے ہیں۔ مگر ان سب کے منہ سے یہ پسیہ نکال کر اس میلہ کو کھلایا جاتا ہے۔ موت کے بعد تین دن تک میت کے گھر والے تعزیت کیلئے بیٹھتے ہیں۔ جہاں بجائے دعا اور تعزیت کے حقے کے دور چلتے ہیں اور کچھ قرآن کریم پڑھ کر بخشتے بھی ہیں۔ تو اس طرح کہ حقہ منہ میں ہے اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ پھر چالیس روز تک برابر دو روٹیاں ہر روز خیرات کی جاتی ہیں۔ اور اس کے درمیان دسواں بیسواں اور چالیسواں بڑی دھوم دھام سے ہوتا رہتا ہے۔ جن میں برادری کی عام دعوتیں ہوتی ہیں اور فاتحہ کیلئے ہر قسم کی مٹھائیاں اور فروٹ (میوے) اور کم از کم ایک عمدہ کپڑوں کا جوڑا رکھا جاتا ہے۔ فاتحہ کے بعد وہ مٹھائیاں اور فروٹ تو گھر کے بچوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور کپڑوں کا جوڑا خیرات ہوتا ہے۔ پھر چھ ماہ کے بعد ماہی اور سال کے بعد میت کی برسی ہوتی ہے۔ اس برسی میں بھی برادری اور بستی کی روٹی کی جاتی ہے۔ لو صاحب آج ان رسموں سے بچھا چھوٹا بعض جگہ دیکھا گیا ہے۔ کہ کفن پر ایک نہایت خوبصورت ریشمی یا اوننی چادر ڈالی جاتی ہے جو بعد دفن خیرات ہوتی ہے۔ مگر دوستو! یہ بھی خیال رہے کہ ننانوے فی صدی یہ رسمیں اپنے نام اور شہرت کیلئے ہوتی ہیں۔ اگر یہ کام نہ ہوں گے۔ تو ناک کٹ جائے گی۔

ان رسموں کی خرابیاں، شریعت میں کفن اس کے فم ہے جس کے قدر اسکی زندگی کا خرچہ ہے۔ لہذا ہر جوان، مالدار مرد کا کفن اسکے اپنے مال سے دیا جانا چاہیے۔ اور چھوٹے بچوں کا کفن اس کے ماں باپ کے فم ہے۔ اسی طرح اگر بیوی کا انتقال رخصت سے پہلے ہو گیا تو بیوی کے باپ کے فم ہے۔ اگر رخصت کے بعد انتقال ہوا تو شوہر کے فم۔ شوہر کے ہوتے ہوئے اس کے باپ بھائی سے جبراً کفن لینا ظلم ہے اور سنت منع سنت یہ ہے کہ میت کے پڑوسی یا قرابت دار مسلمان صرف ایک دن یعنی دو وقت کھانا میت کے گھر بھیجیں اور وہ کھانا صرف ان لوگوں کے لئے ہو جو غم یا مشغولیت کی وجہ سے آج پکانہ سکے۔ عام عمدہ والوں اور برادری کو اس کھانے کا

حق نہیں۔ ان کے لئے یہ کھانا سخت منع ہے۔ ہاں میت کے گھر جو مہمان باہر سے آئے ہیں ان کو اس کھانے سے کھانا جائز ہے۔ ایک دن سے زیادہ کھانا بھیجنا منع ہے۔ میت والوں کے گھر تیجہ اور چالیسوں کی روٹی کرانا اور اس سے برادری کی روٹی لینا حرام و مکروہ تحریمی ہے لہذا یہ مرد و عورتیجہ، دسواں، چالیسواں، چھ ماہی برسی کی برادری کی دعوتیں کھلانے والے اور کھانے والے دونوں گنہگار ہیں۔ یہ کھانا صرف غریبوں فقیروں کا حق ہے کیونکہ یہ صدقہ و خیرات ہے۔ اور اگر میت کا کوئی وارث پتہ ہے یا سفر میں ہے۔ تو بغیر تقسیم کئے ہوئے اس کا مال خیرات کرنا بھی حرام ہے کہ نہ یہ فقیروں کو جائز اور نہ مالداروں، لہذا یا تو کوئی وارث خاص اپنے مال سے یہ خیرات کرے یا پہلے میت کا مال تقسیم کر لیں۔ پھر نابالغ اور غائب کا حصہ نکال کر حاضر بالغ وارث اپنے حصہ سے کریں۔ ان دعوتوں کا یہ شرعی حکم تھا۔ اب دنیاوی حالات پر نظر کرو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان تیجہ چالیسواں اور برسی کی رسموں نے کتنے مسلمانوں کے گھر تباہ کر دیئے میرے سامنے بہت سی ایسی مثالیں ہیں مسلمانوں کی دکانیں جائیدادیں اور مکانات چالیسواں اور تیجہ کھا گیا۔ آج وہ ٹھوکر میں کھاتے پھر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے باپ کے چالیسویں کے لئے ایک بیٹے (کراڑ) سے چار سو روپے قرض لیے تھے۔ ستائیس سو روپیہ ادا کر چکے۔ مگر قرض ختم نہیں ہوا۔ پھر لطف یہ ہے کہ اس تیجہ اور چالیسویں کی رسموں سے صرف ایک ہی گھر تباہ نہیں ہوتا۔ بلکہ دو لہن کے میکے والے بھی ساتھ تباہ ہوتے ہیں۔ یعنی ع۔

ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے

کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے اگر تیجہ میت والا کرے تو چالیسویں کی روٹی اس کے سمدھیانے والے کریں، میرے اس کلام کا تجربہ ان کو خوب ہوا ہوگا۔ کہ جن کو کبھی ان رسموں سے واسطہ پڑا ہو دیکھا یہ گیا ہے کہ میت کا دم نکلا اور محلہ والی عورتوں مردوں نے گھر گھیر لیا اول تو پان دان کے

ٹکڑے اڑا دیے۔ اب سب لوگ جمع ہیں۔ کھانا آنے کا انتظار ہے۔ بیچارہ میت والا مصیبت کا مارا اپنا غم بھول جاتا ہے۔ یہ فکر پڑ جاتی ہے کہ اس میلے کا پیٹ کس طرح بھروں۔ پھر جب تک اس بیچارے کو دوا دینے میں نکل جاتا یہ میلہ نہیں ہٹتا۔ لہذا اے مسلمانوں! ان ناجائز اور خراب رسموں کو بالکل بند کر دو۔

**موت کے بعد کی اسلامی رسمیں:** کفن و دفن کا سارا خرچہ یا تو خود میت کے مال سے ہو اور اگر کسی کی بیوی یا بچہ مرے تو شوہر یا باپ کے مال سے ہو مگر ہرگز نہ لیا جائے میت کے مال سے کریں۔ ان دعوتوں کا یہ شرعی حکم ہے کہ کسی سے ہرگز نہ لیا جائے۔ میت والوں کے گھر پڑوسی یا قرابت دار۔ صرف ایک دن کھانا لے جائیں۔ اور وہ بھی اتنا جتنا کہ خالص گھر والوں یا ان کے پر ویشی مہمانوں کو کافی ہو اور اس میں سنت کی نیت کریں نہ کہ دنیاوی بدلہ اور نام و نمود کی اگر تین روز تک تعزیت کیلئے میت کے لئے مرد کسی جگہ بیٹھیں تو کوئی حرج نہیں۔ مگر اس میں حقہ کا دور بالکل نہ ہو۔ بلکہ آنے والے فاتحہ پڑھتے آویں اور صبر کی ہدایت کرتے جاویں۔ تین دن کے بعد تعزیت کے لئے کوئی نہ بیٹھے اور نہ کوئی آئے ہاں جو پر ویشی قرابت دار سفر سے آئے تو جب بھی پہنچے میت والوں کی تعزیت کرے یعنی پرسادے۔ عورتیں جب کسی کے گھر پر سارینے آتی ہیں تو خواہ مخواہ میت والوں سے مل کر روتی ہیں۔ چاہے آنسو نہ آویں مل کر آواز نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ان کو صبر کی تلقین کرو۔ اور دسواں، اور چالیسواں اور برسی وغیرہ ضرور کرنا چاہئے۔ مگر اس میں دو باتوں کا خیال ضرور ہے۔ ایک تو یہ کہ جہاں تک ہو سکے میت کے مال سے نہ کریں۔ اگر کوئی وارث بچہ ہے۔ تب اس کے حق سے یہ خیرات کرنا حرام ہے۔ لہذا کوئی قرابت دار کھانا پینا وغیرہ اپنے مال سے کرے اور دوسرے یہ کہ کھانا صرف فقراء اور غریبوں کو کھلایا جائے۔ علم برادری کی روٹی ہرگز نہ لیا جائے۔ اور فقراء پر اس قدر خرچ کیا جائے جتنی حیثیت ہو قرض لیکر توج اور زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں۔ یہ صدقہ وغیرہ سے بڑھ کر نہیں۔ اس کی پوری تحقیق کے لئے



اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی کتاب جلی الصوت لہنہ الدعوة عن اهل الموت۔ دیکھو بلکہ دیکھنے والوں سے ہم کو معلوم ہوا ہے۔ کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کے یہاں پر سادینے جاتے۔ تو اس کے گھر حقہ پان بھی استعمال نہ کرتے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو دعوت نہیں۔ فقط ایک تواضع ہے یہ کیوں نہیں استعمال فرماتے تو فرمایا کہ زکام کو روکنا کہ بخار سے امن رہے۔

ہماری اس گزارش کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تیجہ دو سوال اچھا لیسواں وغیرہ نہ کرو۔ یہ تو دیوبندی یا وہابی کہے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو اولیاء کے نام و نمود کیلئے نہ کرو۔ بلکہ ناجائز اور فضول رسموں کو اس سے نکال دو۔ حق تعالیٰ توفیق عطا فرماوے، آمین۔

**میراث۔** اسلامی قانون میں مسلمانوں کی ساری اولاد یعنی لڑکے لڑکیاں اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے مال سے میراث لیتے ہیں۔ لڑکے کو لڑکی سے دوگنا حصہ ملتا ہے مگر ہندوؤں آریوں کے دھرم میں لڑکی باپ کے مال سے محروم ہوتی ہے۔ اور سب مال لڑکا ہی لیتا ہے یہ صاف ظلم ہے۔ جب دونوں ایک ہی باپ کی اولاد میں تو ایک کو میراث دینا اور ایک کو نہ دینا اس کے کیا معنی؟ لیکن کاٹھیاواڑ اور پنجاب کے مسلمانوں نے اپنے لئے یہ ہندوئی قانون قبول کیا ہے۔ اور حکومت کو لکھ کر دیا ہے۔ کہ ہم کو ہندوئی قانون منظور ہے، جس کے معنی یہ ہوتے کہ ہم زندگی میں تو مسلمان ہیں اور مرنے کے بعد تعویذ باللہ ہندو۔ یاد رکھو۔ قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر اسلام کے اس قانون سے ناراضی ہے تو کفر ہے۔ اور اگر اس کو حق جان کر اس پر عمل نہ کیا تو حق تلفی اور ظلم ہے۔ لڑکے تم کو کیا بخش دیتے ہیں۔ اور لڑکیاں کیا چھتین لیتی ہیں۔؟ جب تم مر ہی گئے تو اب تمہارا مال کوئی بھی لے تم کو کیا؟ تم بیٹے کی محبت میں اپنی آخرت کیوں تباہ کرتے ہو؟ تمہارا یہ خیال بھی غلط ہے۔ کہ لڑکی تمہارا مال برباد کر دے گی۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ اپنے باپ کی چیز کا

درجتنا لڑکی کو ہوتا ہے اتنا لڑکے کو نہیں ہوتا۔ ایک جگہ لڑکوں نے اپنے باپ کا مکان فروخت کیا۔ لڑکے تو خوشی سے فروخت کر رہے تھے۔ مگر لڑکی بہت روتی چلاتی تھی کہ یہ میرے مرے باپ کی نشانی ہے۔ اس کو دیکھ کر اپنے باپ کو یاد کر لیتی ہوں میں اپنا حصہ فروخت نہ کروں گی۔ اسکے رونے سے دیکھنے والے بھی رونے لگے اور بڑھاپے میں حقیقی ماں باپ کی خدمت لڑکی کرتی ہے۔ اتنی خدمت لڑکا نہیں کرتا۔ پھر اس غریب کو کیوں محروم کرتے ہو؟ لڑکے تو مرنے کے بعد قبر پر فاتحہ کو بھی نہیں آتے لہذا ضروری ہے کہ لڑکی اور لڑکے کو پورا حصہ دو۔ کاٹھیاواڑ میں ایک قوم ہے آغاخواںی خوجہ اگر ان کے دو بیٹے ہوں تو ایک کا نام قاسم بھائی اور دوسرے کا نام راج لعل یا مول جی اور کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن مسلمانوں کی بخشش ہوئی تو قاسم بھائی بخشوا لے گا۔ اور اگر ہندوؤں کی نجات ہوئی تو راج لعل ہاتھ پکڑے گا۔ کیا یہ ہی ہم نے بھی سمجھ رکھا ہے۔ کہ زندگی میں اسلامی کام کریں۔ اور میراث میں ہندوؤں کے قانون اختیار کریں۔ تاکہ دونوں قومیں خوش رہیں۔

اگر مسلمانوں کو یہی فکر ہے کہ ہماری اولاد ہمارا مال برباد کر دے گی۔ تو چاہیے کہ اپنی جائیداد مکانات و دوکانیں وغیرہ اپنی اولاد پر وقف کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ کہ ہمارے بعد ہماری اولاد ہماری جائیداد اور مکانات سے ہر طرح نفع اٹھائے اور اس میں ہے۔ اس کا کرایہ کھائے اور حصہ رسد کرایہ کو آپس میں تقسیم کرے مگر اس کو رہن (گروی) نہ کر سکے۔ اس کو بیچ نہ سکے۔ اس سے انشاء اللہ ہماری جائیداد اور مکانات محفوظ ہو جائیں گے۔ کسی کے ہاتھ فروخت نہ ہو سکیں گے۔ اور تم گناہ سے بھی بچ جاؤ گے۔ اگر مسلمان اس قانون پر عمل کرتے تو آج ان کی جائیدادیں، ہندوؤں کے پاس نہ پہنچ جائیں۔ وقف علی الاولاد کرنے کا طریقہ کسی عالم سے پوچھ لینا چاہیے۔ اور میراث کے لئے ہم نے ایک کتاب اردو زبان میں لکھی ہے۔ جس کا نام ہے ”علم المیراث“ اس کا مطالعہ کرو۔

ہمارے بعض دوستوں کی فرمائش تھی۔ کہ کتاب کے آخر میں فائدہ مند وظیفے اور اعمال روزانہ پڑھنے

کے بھی اور متبرک تاریخوں اور بڑی راتوں کے بھی بیان کر دیئے جائیں۔ کیونکہ لوگ ان سے

بے خبر ہیں۔ میں مسلمانوں کے فائدے کے لئے وہ اعمال جو کہ بفضلہ تعالیٰ توفیق صدی کامیاب ہیں اور جس کی مجھ کو میرے ولی نعمت، مرشد برحق حضرت صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب قباہت برکاتہم القدسیہ کی طرف سے اجازت ہے۔ خاص لوجہ اللہ بتاتا ہوں اور سنی مسلمانوں کو ان کی اجازت دیتا ہوں۔

**نوٹ ضروری:** بہر عمل کی کامیابی کی دو شرطیں ہیں۔ اول عامل کا صحیح العقیدہ سنی ہونا اور ہر مذہب خصوصاً یونیدی اور وہابی کی صحبت سے بچنا۔ دوسرے شرعی احکام خصوصاً نماز روز سختی سے پابند ہونا۔ مریض اگر دوا کرے۔ مگر پرہیز نہ کرے تو دوا فائدہ نہیں پہنچاتی اسی طرح اگر ان مذکورہ اعمال کا کرنے والا یہ دو پرہیز نہ کرے گا۔ تو کامیاب ہوگا۔ دو طرح کے وظیفے بیان کرتا ہوں۔ ایک روزانہ یا کسی خاص موقع پر پڑھنے کے دوسرے خاص راتوں اور متبرک تاریخوں میں پڑھنے کے لئے۔

**صبح و شام نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد ہر روز تین بار یہ دعا پڑھے اول و آخر تین تین بار درود**

شَرِيفُ اَعُوذُ بِكَ لِمَتِ اللّٰهِ التَّائَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ۔ پھر یہ پڑھے سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِيْنَ

خدا نے چاہا تو زہریلے جانوروں سانپ بچھو وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ نہایت مجرب ہے۔

**روزانہ صبح فجر کی سنتیں اپنے گھر پڑھے اور سنتوں کے بعد اول آخر درود شریف تین تین بار درود**

میں، بارِ اسْتَعْمَرُ اللّٰهُ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ پڑھے گھر میں بہت برکت رہی اور سب

گھروالوں میں اتفاق بفضلہ تعالیٰ ہوگا۔ مگر شرط یہ ہے کہ مرونت فجر کے بعد فرض مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے۔

**کھانا کھانے کے وقت۔ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَا**

**فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ۔** جب کھانا سامنے آجائے۔ تب یہ پڑھ کر کھائے۔ رب نے

چاہا تو وہ کھانا نقصان نہ کرے۔ دوا پر بھی یہی دعا پڑھ لینی چاہیے۔

**دشمنوں کے شر سے بچنے کے لئے۔** روزانہ صبح و شام اول و آخر درود شریف پڑھ کر

سباریہ دعا پڑھے۔ بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ انشاء اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔

سفر کو جاتے وقت جب گھر سے سفر کے لئے نکلے۔ تو اگر کراہت کا وقت نہ ہو۔ نفل کی کراہت کا وقت فجر اور عصر کے بعد اور دوپہر میں ہے، تو دو رکعت نفل نماز سفر کی نیت سے پڑھے۔ ہر رکعت میں تین تین بار قل ھو اللہ پڑھے اور بعد کو یہ دعا پڑھے اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ اَنْ تُوَادَّكَ اِلَىٰ مَعَادٍ۔ رب نے چاہا تو بجز تیرے گھر واپس آئے گا۔ اور سب کو خیریت سے پائیگا اور اگر اس وقت نفل مکروہ ہو۔ تو بھی عمدہ کی مسجد میں آجاوے اور یہ دعا پڑھے۔

سواری پر سوار ہونے وقت۔ اگر گھوڑا، تانگہ، ریل، موٹر، وغیرہ خشکی کی سواری پر سوار ہو تو یہ پڑھ کر بیٹھے۔ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُّقْرِنِينَ اِنَّا اِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ط انشاء اللہ اس سواری میں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ اور دریا کی سواری یعنی کشتی جہاز وغیرہ میں بیٹھتے وقت یہ دعا پڑھے بِسْمِ اللّٰهِ فَجْرِيْهَا وَمَرْئِيْهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ط انشاء اللہ ڈوبنے سے بچے گا۔

رات کو سوتے وقت۔ اگر سوتے وقت آیتہ الکرسی پڑھ لے تو رات بھر وہ مکان چوری آگ اور ناگہانی آفات سے محفوظ رہے گا۔ اور پڑھنے والا۔ بد خوابی اور جنات کے خلل سے بچا رہے گا۔ ہر نماز کے بعد آیتہ الکرسی پڑھنے سے انشاء اللہ خاتمہ بالخیر ہوگا۔ (۲) جو شخص سوتے وقت پانچوں کلمہ اور قل ۱۰ یا اٰیہا الکفر وون ۱۱ ایک دفعہ پڑھ کر سویا کرے تو انشاء اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا مگر چاہیے کہ اس کے بعد کوئی دنیاوی بات نہ کرے۔ اگر بات نہ پڑ جائے تو دوبارہ اس کو پڑھے۔ ہر نماز کے بعد لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ اٰثَمِکُمْ فَاذْعَبُوا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْفٰسِقِیْنَ اور بیت بکت ہوگی مصیبت زدہ کو دیکھ کر۔ بیمار قرضدار یا اور کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔



الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفَضُّلاً اِنَّ الشَّارِطَةَ  
وہ مصیبت اپنے کو کبھی نہ آئے گی۔ نہایت مجرب ہے۔

## بارہ مہینوں کی متبرک تاریخوں کے وظیفے اور عملیات

دسویں محرم (عاشورہ) محرم کی نویں اور دسویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پاوے گا۔ بال بچوں  
کیلئے دسویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشا اللہ سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔  
بہتر ہے کہ حلیم رکھو (پکا کر حضرت شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے بہت مجرب ہے۔  
اسی تاریخ کو غسل کرے تو تمام سال انشا اللہ تعالیٰ بیماریوں سے امن میں رہے گا کیونکہ اس دن آب  
زم زم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے (تفسیر سورح البیان پارہ بارہ آیات قصہ نوح)

اسی دسویں محرم کو جو سرد لگائے تو انشا اللہ تعالیٰ سال بھر تک اسکی آنکھیں نہ دکھیں (دور مختار کتاب الصوم)  
ربیع الاول کا میلاد شریف۔ ربیع الاول بارہویں تاریخ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت  
پاک کی خوشی میں روزہ رکھنا ثواب ہے۔ مگر بہتر ہے کہ دو روزے رکھیں اور اس مہینہ میں محفل میلاد شریف  
کرنے سے تمام سال گھر میں برکتیں اور سہ طرح کی امن رہتی ہے (روح البیان زیر آیت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ)  
اس کا بہت تجربہ کیا گیا ہے۔ اور گیارہویں بارہویں تاریخوں کی درمیانی رات کو تمام رات جاگے  
اس رات میں غسل کرے۔ نئے کپڑے بدلے خوشبو لگائے ولادت پاک کی خوشی کرے اور بالکل ٹھیک  
صبح صادق کے وقت قیام اور سلام کرے۔ انشا اللہ جو بھی نیک دعائیں مانگے قبول ہوگی۔ بہت ہی  
مجرب ہے۔ اعتقاد شرط ہے۔ لا دوام فیہ اور بہت مصیبت زدوں پر آزمایا گیا۔ درست پایا مگر

قیام اور سلام کا وقت نہایت صحیح ہو۔

ربیع الاخر کی گیارہویں شریف اس مہینہ میں ہر مسلمان اپنے گھر میں حضور غوث پاک

سے کار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے۔ سال بھر تک بہت برکت رہے گی۔ اگر ہر چاند کی

گیارہویں شب کو یعنی دسویں اور گیارہویں تاریخ کی درمیانی رات کو مقرر پیسوں کی شیرینی مسلمان

کی دوکان سے خرید کر پابندی سے گیارہویں کی فاتحہ دیا کرے۔ تو رزق میں بہت ہی برکت ہوگی اور

اور انشاء اللہ تعالیٰ کبھی پریشان حال نہ ہوگا۔ مگر شرط یہ ہے۔ کہ کوئی تاریخ ناغہ نہ کرے اور جتنے پیسے

مقرر کرے۔ اس میں کمی نہ ہوتے ہی پیسے مقرر کرے۔ جتنے کی پابندی کر سکے۔ خود میں اس کا

سختی سے پابند ہوں اور نفع اللہ تعالیٰ اس کی خوبیاں پیشا پاتا ہوں۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ۔

رجب۔ رجب کے مہینے میں تیرہویں چودھویں اور پندرہویں تاریخ کو روزے رکھے ان کو ہزاری

روزہ کہتے ہیں۔ کیونکہ ان روزوں کا ثواب مشہور ہے کہ ایک ہزار روزوں کے برابر ہے۔

بائیسویں رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے بہت اڑی ہوئی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں

ستاہیسویں رجب کو معراج البنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جلسے کریں خوشیاں منائیں رات کو

جاگ کر نواہل پڑھیں۔ پنجاب میں رجب کے مہینہ میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ جب

مال کا سارا پورا ہو جائے۔ فوراً زکوٰۃ نکال دے سب کا انتظار نہ کرے ہاں سال پورا ہو جانے سے

پہلے بھی نکال سکتا ہے۔ اور اگر رمضان میں زکوٰۃ نکالے۔ تو زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ رمضان میں

نیک کاموں کا ثواب زیادہ ہے۔

شعبان شب برات۔ اس مہینہ کی پندرہویں رات جس کو شب برات کہتے ہیں۔ بہت

مبارک رات ہے۔ اس رات میں قبرستان جانا۔ وہاں فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ اسی طرح بزرگوار

دین کی مزارات پر حاضر ہونا بھی ثواب ہے۔ اگر ہو سکے تو چودھویں اور پندرہویں تاریخ کو روزے

کہتے۔ پندرہویں تاریخ کو علوہ وغیرہ بزرگانِ دین کی فاتحہ پڑھ کر صدقہ و خیرات کرے۔ اور پندرہویں رات کو ساری رات جاگ کر نفل پڑھے اور اس رات کو ہر مسلمان ایک دوسرے سے اپنے قصور معاف کرالیں قرض وغیرہ ادا کریں۔ کیونکہ بعض والے مسلمان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور بہتر یہ ہے کہ سور کعت نفل پڑھے دو دو رکعت کی نیت بانڈھے اور ہر رکعت میں ایک ایک بار سورہ فاتحہ پڑھے گیارہ گیارہ مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے۔ تو رب تعالیٰ اس کی تمام حاجتیں پوری فرماوے اور اُس کے گناہ معاف فرماوے (تفسیر روح البیان سورہ دخان) اور اگر تمام رات نہ جاگ سکے۔ تو جس قدر ہو سکے عبادت کرے۔ اور زیاراتِ قبور کرے (عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے) لہذا وہ صرف نوافل اور روزے ادا کریں۔ اگر اس رات کو سات پتے پیری کے پانی میں جوش دے کر غسل کرے۔ تو انشاء اللہ العزت تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔

**ماہِ رَمَضَانَ** یہ وہ مبارک مہینہ ہے۔ جس کا ہر ہر منٹ برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں ہر وقت عبادت کی جاتی ہے۔ دن کو روزہ اور تلاوتِ قرآنِ پاک اور رات تراویح اور سحری میں گذرتی ہے۔ مگر اس ماہ میں ایک رات بڑی ہی مبارک ہے۔ دن تو جمعۃ الوداع کا دن اور رات ستائیسویں رات۔ اس کے کچھ عمل بتائے جاتے ہیں۔

رمضان شریف کی ستائیسویں رات غالباً شبِ قدر ہے۔ اس رات کو جاگ کر گزارے۔ اگر تمام رات نہ جاگ سکے تو سحری کھا کر نہ سوتے اور یہ دعا زیادہ مانگے۔ **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ط** اور اگر ہو سکے تو سور کعت نفل دو دو کی نیت سے پڑھے۔ اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ط** (ایک بار اور قل هو اللہ احد ط تین تین بار پڑھ لے اور ہر سلام پر کم از کم دس دس بار درود شریف پڑھنا جاوے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اسی ستائیسویں شب کو تراویح کا ختم قرآن بھی کیا جائے (تفسیر روح البیان۔ سورہ قدر)

جمعۃ الوداع میں نماز قضا عمری پڑھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن ظہر و عصر کے درمیان بارہ رکعت نفل دو دو رکعت کی نیت سے پڑھے۔ اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد بارائتہ الکرسی اور تین بار قل ہو اللہ احد اور ایک ایک بار قل اور ناس پڑھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن قدر نمازیں اس نے قضا کر کے پڑھی ہوں گی۔ ان کے قضا کرنے کا گناہ انشاء اللہ معاف ہو جائے گا یہ نہیں کہ قضا نمازیں اس سے معاف ہو جائیں گی۔ وہ تو پڑھنے سے ہی ادا ہوں گی۔ عید بقر عید کی راتوں میں عبادت کرنا ثواب ہے۔

جو کوئی اس کتاب سے فائدہ اٹھائے۔ تو مجھ فقیر بے نوا کے لئے دعا کرے کہ رب تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے آمین۔ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ وَتُورِعُ عَرَشِيهِ سَيِّدِنَا وَوَلَدِنَا مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِهِ وَهُوَ اَمْرٌ حَمِيدٌ

## ضمیمہ اسلامی زندگی مسلمان اور بیکاری

مسلمانوں کو برباد کرنے والے اسباب میں سے بڑا سبب ان کے جوانوں کی بیکاری اور بچوں کی آوارگی ہے۔ پاکستان کے مسلمانوں پر اخراجات زیادہ اور آمدنی کے ذریعہ محدود بلکہ قریباً نابود ہیں۔ یقین کرو۔ بیکاری کا نتیجہ ناواری ہے۔ ناواری کا انجام قرضداری اور قرضداری کا انجام قلت و خوری ہے بلکہ سچ تو ہے کہ ناواری مفاسی و مدعا علیوں کی بڑی ہے۔ چوری و کھیتی، بھیک، بد معاشی جیسا کہ اس کی شاخیں ہیں اور حیل پھانسی اس کے پھل مفلس کی بات کا وزن ہی نہیں ہوتا۔ پیشہ ورو اعظا اور علماء کو بدنام کرنے والے مہذب بھکاری اعلیٰ درجہ و عطا کہ جب اخیر میں کہیں کہ بھائیو میرے پاس



کریہ نہیں میں مفلس ہوں۔ میری مدد کرو۔ ان دو لفظوں سے سارا وعظ بیکار ہو جاتا ہے  
 جھیک وہ کھٹائی ہے جو وعظ کے سارے نشہ کو اتار دیتی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ مفلس کی نہ نماز اطمینان  
 کی نہ روزہ، نہ زکوٰۃ و حج کا تو ذکر ہی کیا۔ یہ عبادتیں اسے نصیب ہی کیسے ہوں۔ شیخ سعدی علیہ  
 الرحمۃ نے کیا خوب فرمایا ہے :

غم اہل و عیال و جامہ وقت ، بازت آرزو ز سیر در ملکوت !

شب چو عقد نماز بر بندم ، چہ خور و یاد و فرزندم

یعنی بیوی بچوں اور روٹی کپڑے کا غم، عابد صاحب کو ملکوت کی سیر سے نیچے اتار لاتا ہے  
 نماز کی نیت باندھتے ہی خیال پیدا ہوتا ہے کہ صبح بچے کیا کھائیں گے۔ اس لئے مسلمانوں کو چاہیے  
 کہ بیکاری سے بچیں۔ اپنے بچوں کو ادارہ نہ ہونے دیں۔ اور جوانوں کو کام پر لگائیں دوسری قوموں سے  
 سبق لیں دیکھو ہندوں کے چھوٹے بچے یا اسکول و کالج میں نظر آئیں گے یا خانہ چھپتے مسلمانوں کے  
 بچے یا تنگ اڑاتے دکھائی دیں گے یا گیند بلا کھیلتے دیگر قوموں کے جوان کچھ لوں، دفتروں اور عمدہ  
 عمدہ عہدوں کی کرسیوں پر دکھائی دیں گے یا تجارت میں مشغول نظر آئیں گے۔ مگر مسلمانوں کے  
 جوان یا فیشن ایبل اور عیش پرست ملیں گے یا جھیک مانگتے دکھائی دیں گے۔ یا بد معاشی کرتے نظر آئیں گے۔  
 سینما مسلمانوں سے آباد کھیل۔ تماشوں میں مسلمان آگے آگے تھیٹر بازی۔ بیٹری بازی اور تنگ بازی  
 مرغ بازی۔ غرض ساری بازیوں اور ہلاکت کے سارے اسباب مسلم قوم میں جمع ہیں۔ میں تو یہ دیکھ کر  
 خون کے آنسو روتا ہوں کہ ذلیل پیشہ ور مسلمان ہی ملتے ہیں میراثی مسلمان، رہنمائی اکثر مسلمان، تانے زنہارے  
 مسلمان کیہ و تانگوارے اکثر مسلمان جواری و شرابی اکثر مسلمان۔ افسوس جو وہ بد معاشیوں کو دنیا سے  
 مٹانے آیا اس دین کے ماننے والے آج بد معاشیوں میں اول نمبر۔

یقین کرو۔ کہ ہمارا زندہ رہنا اور ہم پر عذاب الہی نہ آنا صرف اس لئے ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ



کے سوا کسی کو مانگنا جائز نہیں۔ ایک وہ جو کسی مقروض کا ضامن بن گیا اور قرض اسے دینا پڑ گیا دوسرے کا مال آفت ناگہانی سے برباد ہو گیا تیسرے جو قبا میں مبتلا ہو گیا۔ انکے سوا کسی اور کو سوال حلال نہیں (مسئلہ مشکوٰۃ کتاب الزکوٰۃ) (۷) ایک بار حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں کسی انصاری نے سوال کیا۔ فرمایا۔ کیا تیرے گھر میں کچھ ہے عرض کیا صرف ایک کمل ہے جس کو آدھا بچھاتا ہوں۔ آدھا اوڑھتا ہوں۔ اور ایک پیادہ جس سے پانی پیتا ہوں۔ فرمایا وہ دونوں لے آ۔ وہ لے آیا۔ حضور نے مجمع سے خطاب کے فرمایا۔ اسے کون خریدتا ہے۔ ایک نے عرض کیا۔ کہ میں ایک درم سے لیتا ہوں۔ پھر دو تین بار فرمایا کہ درم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ دوسرے نے عرض کیا۔ میں دو درم (نو آنے) میں خریدتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے وہ دونوں انہیں کو عطا فرمادیں (نیلام کا ثبوت ہوا) اور یہ دو درم ان سائل صاحب کے دے کر فرمایا کہ ایک کا غلہ خرید کر گھر میں ڈالو اور دوسرے درم کی کلباڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ پھر اس کلباڑی میں اپنے دست مبارک سے دستہ ڈالا اور فرمایا۔ جاؤ لکڑیاں کاٹو اور پچو اور پندرہ روز تک میرے پاس نہ آنا۔ وہ انصاری پندرہ روز تک لکڑیاں کاٹتے اور بیچتے رہے۔ پندرہ روز کے بعد جب بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو انکے پاس کھانے پینے کے بعد دس درم یعنی پوتے تین روپے بچے تھے۔ اس میں سے کچھ کا کپڑا خرید کر کچھ کاغذ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ محنت تمہارے لئے مانگنے سے بہتر ہے (ابن ماجہ مشکوٰۃ کتاب الزکوٰۃ) (۸) فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی بھیک نہ مانگے گا ضامن بن جائے میں اس کے لئے جنت کا مس ہوں۔ (نسائی ابوداؤد)

(۹) حضور علیہ السلام نے ابو ذر سے فرمایا کہ تم لوگوں سے کچھ نہ مانگو۔ عرض کیا بہت اچھا فرمایا۔ اگر گھوڑے سے تمہارا کوڑا گر جائے تو وہ بھی کسی سے نہ مانگو۔ (ترک خود لو احمد مشکوٰۃ)

(۱۰) فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی اپنا قاقہ مخلوق پر پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی فقیری بڑھائے گا۔ طبع فقیری ہے۔ اور یاس غنا۔

کھائی کے عقلی فوائد (۱۱) حلال کھائی پیچیدگی کی سنت ہے (۱۲) کھائی سے مال بڑھتا ہے اور

مال سے صدقہ، خیرات، حج، زکوٰۃ، مسجدوں کی تعمیر، خانقاہوں کی عمارت ہو سکتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کے ذریعہ جنت خرید لی۔ کہ ان کیلئے فرمایا گیا۔ اَفْعَلُوا فَاثِمَاتُمْ۔ (۳) کمائی کھیل کود اور جرموں سے روک دیتی ہے پوری ہو سکتی ہے۔ بد معاشی، جفائی غیبت لڑائی جھگڑے سب بیکاری کے نتیجے میں رہم، کسب سے انسان کو محنت کی عادت پڑتی ہے اور دل سے غرور نکل جاتا ہے۔ (۵) کسب میں غربت و فقیری سے امن ہے اور غریبی و نیاز بردار کر کے دونوں میں امن کالاکرتی ہے۔ اَلَا فَاشَاءَ اللّٰهُ ط (۶) جو کوئی کمائی کیلئے نکلتا ہے۔ تو اعمال بکھنے والے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیری اس حرکت میں برکت دے اور تیری کمائی کو جنت کا ذخیرہ بنائے۔ اس دعا پر زمین و آسمان کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔

(تفسیری پارہ دوم) (روح البیان)

انبیائے کرام نے کیا پیشے اختیار کئے، کسی پیغمبر نے نہ سوال کیا۔ نہ ناجائز پیشے کئے ہر نبی نے کوئی نہ کوئی حلال پیشہ ضرور کیا چنانچہ آدم علیہ السلام نے اولاً کپڑا بننے کا کام کیا اور بعد میں آپ کھیتی باڑی میں مشغول ہو گئے۔ ہر قسم کے بیج جنت سے ساتھ لاتے تھے ان کی کاشت فرماتے تھے۔ ان کے سوا سارے پیشے کئے۔ نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش لکڑی کا کام تھا۔ (بڑھتی پیشہ) اور لہو علیہ السلام درزی گری فرماتے تھے حضرت ہود اور صالح علیہما السلام تجارت کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشغلہ کھیتی باڑی تھا۔ حضرت ثعب علیہ السلام جانور پالتے اور ان کے دودھ سے معاش حاصل کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چند سال بکریاں چرائیں اور وہ علیہ السلام زندہ بناتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ ہو کر درختوں کے پتوں سے چکھے اور زبیلیں بنا کر گزارتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام سیر و سیاحت میں رہے۔ نہ کہیں مکان بنایا۔ نہ نکاح کیا اور فرماتے تھے کہ جن نے مجھے ناشتہ دیا ہے وہ ہی شام کا کھانا بھی دے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال کی تجارت بھی فرمائی ہوئی ہے ہر قسم



کی حلال کمائیاں سنتِ انبیاء ہے۔ اس کو عار جانا ناوانی ہے (تفسیر نعیمی عویزی)

مہر پر پیشہ۔ افضل پیشہ ہمارا پھر تجارت، پھر کھیتی باڑی پھر صنعت و حرفت ہے علمائے کرام نے فرمایا کہ جائز پیشوں میں ترتیب ہے کہ بعض سے بعض اعلیٰ ہیں جن پیشوں سے دین و دنیا کی بقا ہے دوسرے پیشوں سے افضل ہیں چنانچہ بہتر صنعت دینی تصنیف اور کتاب ہے کہ اس سے قرآن و حدیث اور سائے دینی علوم کی بقا ہے۔ پھر آٹے کی لسانی اور چاول کی صاف کرانی کہ اس سے نفسِ انسان کی بقا ہے۔ پھر روٹی دھنا سوت کٹائی اور کپڑا بنانا ہے کہ اس سے ستر پوشی ہے پھر درزی گری کا پیشہ بھی کہ اس کا بھی یہی فائدہ ہے۔ پھر روشنی کا سامان بنانا کہ دنیا کو اس کی بھی ضرورت ہے۔ پھر معماری، اینٹ بنانا بھٹہ اور چوٹے کی تیاری ہے کہ اس سے شہر کی آبادی ہے۔ زرگری، نقاشی، کارچوبی، جلوہ سازی، عطر بنانا پیشے جائز ہیں۔ مگر ان کا کوئی خاص درجہ نہیں۔ کیونکہ فقط زینت کے سامان ہیں۔ خلاصہ یہ کہ بیکار رہنا بڑا جرم ہے اور ناجائز پیشے کرنا اس سے بڑھ کر جرم۔ رب تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں وغیرہ برتنے کیلئے دیئے ہیں۔ نہ کہ بیکار چھوڑنے کیلئے (تفسیر نعیمی عویزی)

ناجائز پیشے۔ بے مروتی کے پیشے مکروہ ہیں۔ جیسے ضرورت کے وقت غلہ روکنا، اختکار، غسلِ کفن و درزی کے پیشے و کالت اور دلالی۔ ہاں بوقتِ ضرورت ان دونوں میں حرج نہیں جبکہ بھوٹ وغیرہ سے بچے، حرام چیزوں کے کاروبار حرام ہیں۔ جیسے گانا بجانا، ناچنا، شکرے بازی، شیر بازی وغیرہ۔ چھوٹی گواہی کے پیشے ایسے ہی شراب کی تجارت کہ شراب کھینچنا، کھجورانا، بیچنا، بکوانا، خریدنا، خریدوانا، مزدوری پر خریدار کے گھر پہنچانا یہ سب حرام ہیں۔ ایسے ہی جانور کے قوٹ کی تجارت ناجائز ہے۔ قوٹ بھی کھینچنا، کھجورانا سب ناجائز۔ جوئے کے کاروبار حرام جو کھینچنا، کھلوانا، جوئے کا مال لینا سب حرام ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں سے سودی کاروبار حرام۔ سو لینا، دلوانا، کھانا اور اس کا گواہ بننا، وکالت کرنا سب حرام ہے۔

علمائے متقدمین امامت۔ اذان مسجد کی خدمت، علم دین کی تعلیم پر مزدوری لینے کو مکروہ فرماتے تھے، مگر علمائے متاخرین نے جب یہ دیکھا کہ اس صورت میں مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ تعلیم دین بند اور امامت اذان موقوف ہو جائیں گی۔ لہذا اسے بلا کر امامت جائز فرمایا۔ تعویذ کی اجرت بلا کر امامت جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ حرام اور مکروہ پیشوں کے سوا کسی جائز پیشہ میں عار نہیں جو لوگ پیشہ کو عار سمجھ کر قرضدار ہو گئے۔ وہ دین دنیا میں نقصان میں رہے مسلمانوں کی عقل پر کہاں تک ماتم کیا جائے۔ ان اللہ کے بندوں نے سو لینا حرام جانا اور دنیا حلال سمجھا بلا ضرورت مقدمہ بازی۔ شادی غمی کے رسوم ادا کرنے کے لئے بے دھرمک سودی قرض لے کر برابر ہوتے ہیں۔

خیال رکھو کہ سود لینے والا صرف گنہگار ہے اور سود دینے والا گنہگار بھی ہے اور بیوقوف بھی۔ کہ سود خور اپنی آخرت برباد کر کے دنیا تو بنا لیتا ہے، مگر سود دینے والا بیوقوف اپنے دین و دنیا دونوں برابر کرتا ہے۔ میں نے ایک کتاب میں دیکھا کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں پر دیگر قوموں کا ڈیڑھ ارب سودی روپیہ قرض ہے جنکے مقدمات دائر ہیں اور یہ تو دیکھنے میں بہت آتا ہے کہ مسلمانوں کے محلے کے محلے مکانات و دکانیں جائیدادیں۔ اس سود کی بدولت بیٹوں کے پاس پہنچ گئیں۔

کاش اگر مسلمان سود دینے کو سود خوری کی طرح حرام سمجھتے تو انہیں یہ روز بد دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ کاش اب بھی مسلمانوں کی آنکھیں کھل جائیں اور اپنا مستقبل سنسجھالیں۔ سمجھ لو کہ اگر تم زمین سے محروم ہو گئے تو ہندوستان میں تمہاری حیثیت مسافر کی سی ہے کہ کفار جب چاہیں تم سے اپنی زمین خالی کرالیں۔

**معذور مسلمان** عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مسلمانوں میں اندھے اپاہج لوگ اور بیوہ عورتیں یتیم بچے بھیک پر گزارا کرتے ہیں جبکہ بگریلوں اور گھروں میں یتیم بچے یتیم خانوں کے نام پر بھیک مانگتے پھرتے ہیں مگر ہندو نابینا لوگ لنگر لے اپنے لائق محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتے ہیں۔ میں نے بہت سے اندھے اور لنگر لے ہندو سڑکی کوٹتے تباہ کو بنا تے اور ایسی مزدوری کرتے ہوئے دیکھے جو نہ کر سکیں۔



جو کپڑا بننے کا پیشہ کرے وہ جولایا ہو گیا۔ جو مسلمان چمڑے کا رو بار کرنے لگیں۔ انہیں موجی کا خطاب مل گیا۔ جو کپڑا اسی کر اپنے بچوں کو پالے وہ درزی کہلا کر قوم سے باہر ہوا۔ جو رونق دھننے کا کام کرے وہ دھنیا کہلایا گیا اور اٹھتے بیٹھتے ان پر طعنے بھی ہیں ان کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے۔ بات بات میں کہا جاتا ہے۔ ہٹ جولایا ہے۔ چل بے دھنیے دور ہو موجی۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی خاندان میں کسی نے کبھی چمڑے کی تجارت کی تو اس کے پڑپوتوں کو اپنی قوم میں لڑکی نہیں ملتی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی فلانی پشت میں چمڑے کی دوکان ہوتی تھی۔ اس بیوقوفی کا یہ انجام ہوا کہ مسلمان سائیشیوں سے محروم رہ گئے اب ان کیلئے صرف تین راستے ہیں یا لالہ جی کے ہاں ذلت کی نوکری کریں یا زین جانیدار بیچ کر کھائیں یا بھیک مانگیں۔ چوری کریں اور اپنی شرافت کو اڑھیں اور بچھائیں بخیاں رکھو کہ تمام ملکوں میں ملک عرب اعلیٰ و افضل ہے کہ وہاں ہی حج ہوتا ہے اور وہ ہی ملک آفتاب نبوت کا مشرق و مغرب بنا۔ باقی پنجاب بنگال۔ یوپی۔ سی پی۔ ایران تہران چین و جاپان سب یکساں ہیں حج کہیں نہیں ہوتا۔ نہ پنجابی ہونا کمال ہے۔ نہ ہندوستانی ہونا فخر۔ نہ ایرانی ہونا اولاد ہے نہ تورانی ہونا۔ بے شک اہل عرب ہمارے مخدوم ہیں۔ کہ وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں۔ ایسے ہی حضرات سادات کرام اسلام کے شاہزادے اور مسلمانوں کے سردار ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں سامے نسب حسب بیکار ہوں گے۔ سولے میرے نسب کے (شامی) باقی ساری اسلامی قومیں۔ شیخ، مغل، پٹھان اور دیگر اقوام برابر ہیں۔ ان میں نبی زادہ کوئی نہیں شرافت اعمال پر ہے نہ کہ محض نسب پر۔ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ طہم نے تمہیں مختلف قبیلے اس لئے بنایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے۔ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔

جیسے کہ زمین میں مختلف شہر اور گاؤں ہیں اور شہروں میں مختلف محلے تاکہ ملکی انتظام میں آسانی رہے



اور ہر ایک سے خط و کتابت کی جاسکے ایسے ہی انسانوں میں مختلف قومیں ہیں اور ہر قوم کے مختلف قبیلے تاکہ انسان ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں اور ان میں نظم اور انتظام ہے بعض قومیت کو شرافت یا ذلت کا دار بھڑانا سخت غلطی ہے یقین کرو کہ کوئی مسلمان کہیں نہیں اور کوئی کافر شریف نہیں عزت و عظمت مسلمانوں کیلئے ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **الْحَرَّةُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا** عزت اللہ اور رسول کیلئے ہے اور مسلمانوں کیلئے پھر مسلمانوں میں جس کے اعمال زیادہ اچھے اسی کی عزت زیادہ شریف وہ جو شرفیوں کے کام کرے اور کہیں جو کمینوں کی سی حرکتیں کرے شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

ہزار خویش کہ بے گانہ از خدا باشد • قدرے یک تن بے گانہ کاشنا باشد

ہمارے وہ اپنے جو اللہ و رسول کے غیر ہوں۔ اس ایک غیر پر قربان ہو جائیں جو اللہ و رسول کے اپنے ہوں۔ **جَلَّ وَاعْلَىٰ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَصَلَّىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** کسی ہندی شاعر نے کہا کہ

رام نام کشتے بھلے کہ ٹپ ٹپ ٹپکے جام • داروں کنخن دیکھو کہ جس سکھنا ہیں رام

غرض کہ حلال پیشوں کو ذلت سمجھ کے چھوڑ بیٹھنا سخت غلطی ہے۔ اب تو زبانہ بہت پلٹ چکا ہے بڑے بڑے لوگ کپڑے اور سوت کے کارخانے قائم کر رہے ہیں۔ تم کب تک سوؤ گے۔ خواب غفلت سے اٹھو اور مسلم قوم کی حالت پلٹ دو۔ پکاروں کو باکار بنا دو۔ قرضداروں کو قرض سے آزاد کر واپس پونگو جاہل نہ رکھو۔ انہیں ضرور تعلیم دلو اور ساتھ ہی کوئی مہتر بھی سکھا دو۔ تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔

**تجارت** پہلے معلوم ہو چکا ہے۔ کہ تجارت پیشہ انبیاء ہے اسکے پیشا فضائل ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ تاجر مزوق ہے اور ضرورت کے وقت غلہ روکنے والا ملعون ہے (ابن ماجہ) بعض روایات میں

ہے کہ رب تعالیٰ نے لزوق کے دس حصے کئے۔ نو حصے تاجر کو دیئے اور ایک حصہ ساری دنیا کو۔

نیز روایت میں ہے کہ قیامت کے دن سچا اور امین تاجر انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔

تاجر درحقیقت تاجر ہے۔ مثل مشہور ہے کہ تاجر کے سر پر تاج ہے۔ تجارت دنیا کا قیام ہے۔

تجارت کے بازاروں کی رونق، ملکوں کی آبادی۔ انسان کی زندگی قائم ہے۔ مرے جیتے تجارت کی ضرورت ہے۔ میت کا کفن اور قبر کے تختے تاجر ہی سے خریدے جاتے ہیں۔ سلطنت کا مدار تجارت پر ہے آج ملکی جنگیں تجارت کیلئے ہوتی ہیں۔

تعمیر مسجد کیلئے اینٹ، چونہ وغیرہ۔ تاجروں کے ہاں سے آتا ہے، مسجد کے مسئلے چٹائیاں تاجر کی دوکان سے آتے ہیں۔ غلاف کعبہ کیلئے کپڑا تاجر ہی سے ملتا ہے۔ بستر پوشی کیلئے کپڑا اور روزہ افطار کرنے کیلئے افطاری دوکان سے ہی خریدی جاتی ہے۔ قرآن و حدیث چھاپنے کیلئے کاغذ روشنائی تاجر سے ہی ملتی ہے۔ غصہ کہ تجارت دین و دنیا کیلئے ضروری ہے۔ مگر افسوس کہ ہندوستان کے مسلمان اس سے بے بہرہ ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد دس کروڑ ہے۔ اگر فی کس آٹھ آنے یومیہ خرچ کا اوسط ہو تو مسلمان پانچ کروڑ روپیہ روز خرچ کرتے ہیں۔ اور سب تقریباً غیر قوموں کے پاس جاتا ہے گویا ہر دن مسلم قوم پانچ کروڑ روپیہ کفار کی جیب میں ڈالتی ہے۔ اسی حساب سے مسلمانوں کا ماہوار ڈیڑھ ارب روپیہ اور سالانہ اٹھارہ ارب غیر قوم کے پاس پہنچتا ہے۔

کاش! اگر اس کا ادھار روپیہ بھی اپنی قوم میں رہتا۔ تو آج ہماری قوم کے دن پھر جلتے۔ یہ سب برکتیں تجارت سے دور رہنے کی ہیں۔ ہم حج کو جائیں۔ تو غیر وطنی جیب بھریں۔ عید منائیں تو غیر گھاس میں غزنی کے جبین توغیروں کو دیں۔ اور میں توغیروں کو دے کر جائیں اس لئے اٹھو اور تجارت میں کو روٹو۔ آہستہ آہستہ منڈیوں پر قبضہ کر لو۔ اور اپنے قبضہ کا کام کرو۔ کیونکہ دیانتدار اور خیر خواہ آدمی نہیں ملتے۔ ہر شخص اپنا اتر سیدھا کرنا چاہتا ہے۔

حکایت ایک بار سلطان محی الدین اوزنگ زریں غازی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت لمبی دعا مانگی۔ ایک فقیر لولا کہ حضرت! اب کیا گدھا چاہتے ہو۔ تخت پر بیٹھے ہو۔ تاج والے ہو۔ باج کر رہے ہو۔ باج لے رہو۔ اب اتنی لمبی دعا میں کاہے کیلئے مانگتے ہو؟ آپ نے فوراً فرمایا کہ حضرت گدھا نہیں آدمی

مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اچھا مشیر عطا فرمائے۔ غرضیکہ بہترین ساتھی بہت مشکل سے ہاتھ آتا ہے۔  
 حکایت کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تین خلفاء کے  
 میں فتوحات اسلامیہ بہت ہوئیں اور آپ کے زمانہ خلافت میں خانہ جنگی ہی رہی۔ آپ نے فوراً جواب  
 دیا کہ وہ صرف یہ ہے کہ ان کے وزیر و مشیر ہم تھے۔ اور ہمارے مشیر ہونے جیسا مشیر ویسا سلطان۔

**خوش اخلاقی (۴)** یوں تو ہر مسلمان کو خوش خلق ہونا لازم ہے مگر تاجر کو خصوصیت سے خوش  
 خلقی ضرور ہے۔ مسلمان تاجروں کی ناکامی کا ایک سبب انکی بد خلقی بھی ہے۔ کہ جو گاہک ان کے پاس  
 ایک بار آگیا۔ وہ ان کی بد خلقی کی وجہ سے دوبارہ نہیں آتا۔ ہم نے ہندو تاجروں کو دیکھا کہ جب وہ  
 کسی محلہ میں نئی دوکان کھتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو جو سودا خریدنے آئیں کچھ روٹک یا چونکا بھی دیتے  
 رہتے ہیں۔ تاکہ بچے اس لالچ میں ہمارے ہی یہاں سے سودا خریدیں۔ بڑے سوداگر خاص گاہکوں  
 کی پان بیڑی سگرٹ بلکہ کبھی کھانے سے بھی تواضع کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں گاہک کو ہلانے کی ہیں  
 اگر تم یہ کچھ نہ کر سکو تو کم از کم گاہک سے ایسی مٹھی بات کرو اور ایسی محبت سے بولو کہ وہ تمہارا گرویدہ ہو جائے  
**دیانتداری (۵)** تاجر کو نیک چلن، دیانتدار ہونا ضروری ہے بد چلن، بد معاش، حرام خور کبھی تجارت  
 میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسے بد معاشی سے فرصت ہی نہ ملے گی۔ تجارت کب کرے۔ مشرکوں و کفار  
 تجارت میں بہت دیانتداری سے کام لیتے ہیں۔ دیانتداری سے ہی بازار سے قرض مل سکتا ہے۔ دیانتدا  
 ری سے ہی لوگ اس پر بھروسہ کریں گے۔ دیانتداری سے ہی بینک اور کمپنیاں چلتی ہیں۔ کم تو لے والا بھوٹا جان  
 کچھ دن تو بظاہر ہی نفع کما لیتا ہے۔ مگر آخر کار سخت نقصان اٹھاتا ہے۔

**محنت (۶)** یوں تو دنیا میں کوئی کام بغیر محنت نہیں ہوتا۔ مگر تجارت تو محنت چستی اور ہوشیاری  
 چاہتی ہے۔ کابل سست آدمی کبھی کسی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مثل مشہور ہے کہ بغیر محنت تو  
 رقم بھی منتر میں نہیں جاتا۔ تاجر خواہ کتنا ہی بڑا آدمی بن جائے مگر سارے کام تو کروں پر ہی نہ چھوڑے۔ بعض



اپنے ہاتھ سے بھی کرے ہم نے بیوں کو اپنے ہاتھ سے والیں دلتے اور سودا خود اٹھا کر لاتے ہوتے دیکھا۔  
**تجارت کے اصول** تجارت کے چند اصول ہیں جس کی پابندی ہر تاجر پر لازم ہے۔ یعنی پہلے  
 ہی بڑی تجارت شروع نہ کر دو۔ بلکہ معمولی کام کو ہاتھ لگاؤ۔ آپ حدیث شریف سن چکے کہ حضور  
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرنے کا حکم فرمایا۔

**حکایت** ایک شخص تجارت کرنا چاہتے تھے۔ وہ کسی مشہور فرم کے مالک کے پاس مشورہ کیلئے  
 پہنچے۔ ان کا خیال تھا کہ تجارت میں نہایت پوشیدہ راز ہوں گے جنہیں معلوم کرتے ہی میں ایک  
 دم لاکھ پتی بن جاؤں گا۔ مالک فرم نے مشورہ دیا کہ آپ پانچ روپیہ کی دیا سلائی کی ڈبیاں لے کر  
 بازار میں بیٹھ جائیے۔ اگر شام کو پانچ آنے کے پیسے بھی کمائے۔ تو آپ کامیاب ہیں۔ جب اسکی  
 بکری کچھ بڑھ جائے۔ تو اس کے ساتھ کچھ سگریٹ کی ڈبیاں بھی رکھ لیں۔ جب یہ کام چل پڑے تو  
 پانچ چھالیہ بھی رکھ لیں۔ یہاں تک کہ ایک دن پورے پنواڑھی بلکہ پورے پنساڑھی بن جائیں گے۔ دیکھو  
 ہندوؤں کے بچے پہلے ہی منیم نہیں بن جاتے۔ بلکہ اولاً معمولی خوانچے بیچتے ہیں۔ اسی خوانچے سے  
 ایکسوں لکھ پتی بن جاتے ہیں۔ ہم نے کاٹھیاواڑ میں مہین تاجروں کو دیکھا۔ کہ جب وہ کسی کو تجارت سکھاتے  
 ہیں۔ تو ایک سال باورچی رکھتے ہیں۔ دوسرے سال ادھار وصول کرنے پر تیسرے سال بلٹیاں چھوڑنے  
 اور مال روانہ کرنے پر چوتھے سال خورہ فروشی پر۔ پھر دکان کی چابیاں سپرد کر دیتے ہیں۔ (۲) ہر شخص  
 اپنے مناسب طاقت تجارت کرنے قدرت نے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ کام کے لئے بنایا ہے۔  
 کسی کو غلہ کی تجارت چلتی ہے۔ کسی کو کپڑے کسی کو لکڑی کی کسی کو کتابوں کی۔ غرضیکہ تجارت سے

پہلے بہ خوب سوچ لو۔ کہ میں کس قسم کی تجارت میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔  
**اپنی کہانی** میرا مشغلہ شروع سے ہی علم کار ہا۔ مجھے بھی تجارت کا شوق تھا کہ میں نے غلہ کی  
 مختلف تجارتیں کیں۔ مگر ہمیشہ نقصان اٹھایا۔ اب کتابوں کی تجارت کو ہاتھ لگایا۔ رب تعالیٰ نے



بڑا فائدہ دیا۔ معلوم ہوا کہ علماء اور مدرسین کو علمی تجارت کا فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ ہم نے بعض ایسے ہندو ماسٹر بھی دیکھے جو پڑھاتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ قلم، دوات، نیپل، کاغذ وغیرہ کی مدرسہ ہی میں تجارت بھی کرتے ہیں۔ اس نفع سے اپنا ماہواری خرچ چلا کر تنخواہ ساری بچاتے ہیں۔ غرضیکہ تجارت کیلئے انتخاب کار کی بڑی سخت ضرورت ہے۔

(۲) کسی ایسے کام میں ہاتھ مت ڈالو جس کی تمہیں خبر نہ ہو اور سب کچھ دوسروں کے قبضہ میں ہو۔  
**ایک سخت غلطی** اولاً تو مسلمان تجارت کرتے ہی نہیں اور کرتے بھی ہیں۔ تو اصولی غلطیوں کی وجہ سے بہت جلد فیل ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی غلطیاں حسب ذیل ہیں۔  
 (۱) مسلم دکانداروں کی بد خلقی۔ کہ جو گاہک ان کے پاس ایک دفعہ آتا ہے۔ پھر ان کی بد مزاجی کی وجہ سے دوبارہ نہیں آتا۔

(۲) جلد بازی یا تاواقف تاجر۔ دکان رکھتے ہی لکھتی بننا چاہتے ہیں۔ اگر دو دن بکری نہ ہو یا کچھ گھانا پڑے۔ تو فوراً بدول ہو کر دکان چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اس کی بہت مثالیں موجود ہیں۔

(۳) نفع بازی۔ عام طور پر مسلمان تاجر جلد مالدار بننے کیلئے زیادہ نفع پر تجارت کرے ہیں۔ ایک ہی چیز اور جگہ سستی بکیتی ہے اور ان کے ہاں گراں تو ان سے کون خریدے گا۔ عام تجارت میں نفع ایسا چاہیے جیسے آٹے میں نمک ہاں نادر دنیا ب چیزوں پر زیادہ نفع لیا جائے تو حرج نہیں۔

(۴) بے جا خرچ۔ ناواقف تاجر معمولی کاروبار پر بہت خرچ بڑھالیتے ہیں۔ ان کی چھوٹی سی دکان اتنا خرچ نہیں اٹھا سکتی۔ آخر فیل ہو جاتے ہیں۔

**مسلمان خریداروں کی غلطی**۔ ہندو مسلمان تاجر کو دیکھنا چاہتے ہی نہیں۔ انہیں مسلمان کی دکان کاٹنے کی طرح کھٹکتی ہے۔ بہت دفعہ دیکھا گیا کہ جہاں کسی مسلمان نے دکان نکالی تو اس پاس کے ہندو دکانداروں نے چیزیں تو راستی کر دیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت کمابھی چکے اور آئندہ

کمائیں گے بھی۔ دو چار مہینے اگر نہ کمایا تو نہ سہی۔ مسلمان خریدار ایک پیسے کی رعایت دیکھ کر بیویوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اپنے غریب بھائی پر نظر نہیں کرتے۔ اگر ہندو کے ہاں پیسے کے چار پان مل رہے ہیں۔ اور مسلمان کے ہاں تین۔ تو مسلمان سے تین روپے اور دو مل ہیں سمجھ لو کہ اگر یہ مسلمان بھائی ہمارے گھر آتا تو اسے ایک پان کھلاتا ہی پڑتا۔ ہم نے ایک پان سے اس کی تواضع ہی کر دی۔ دل میں کچھ گنجائش پیدا کرو۔ دلی گنجائش سے قومیں بنتی ہیں۔

**حکایت:**۔ مجھ سے ایک تاجر نے کہا کہ ایک انگریز میری دکان پر چھڑی خریدنے آیا۔ میں نہایت نفیس جاپانی چھڑی پیش کی جس کی قیمت بارہ آنے تھی۔ اس نے چھڑی بہت پسند کی اور بہت خوش ہوا مگر جاپان کی مہر پڑھتے ہی جھنجھلا کر ٹپک دی بولا ڈیم جاپان۔ انگلش مال لاؤ۔ میں نے لندن کی بنی ہوئی معمولی چھڑی دی۔ جس کی قیمت پورے تین روپے تھی وہ خوشی لے گیا۔ یہ ہے قوم پرستی کہ جاپانی سستا اور خوبصورت مال نہ لیا۔ اور لندن کا بنا ہوا معمولی مال زیادہ قیمت سے لے گیا۔ مسلمان خریدار اس سے عبرت لیں۔

**مال کے لئے اگٹ پلٹ:**۔ تاجر کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا مال بلاوجہ نہ کمانہ رہے۔ جو لوگ گرانی کے انتظار میں مال قید کر دیتے ہیں۔ وہ سخت غلطی کرتے ہیں۔ کہ کبھی بجائے مہنگائی کے مال سستا ہو جاتا ہے اور اگر کچھ معمولی نفع پا بھی لیا تو بھی خاص فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ سال میں ایک بار مٹھنی روپیہ نفع ہو جانے سے روزانہ کتنی روپیہ نفع بہتر ہے۔ تجارت کے اور بھی بہت سے اصول ہیں جو کسی تاجر سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

مسلمان تو اِحلال رزق حاصل کرو۔ بیکاری صد ہا گناہوں کی جڑ ہے۔ رزق حلال سے عبادت میں ذوق، نیکیوں کا شوق اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جس گھر کے بچے آوارہ اور جوان بیکار ہوں۔ وہ گھر چند دن کا جہان ہے۔ مثنوی شریف میں ہے

علم و حکمت زائد از لقمہ حلال • عشق و رقت زائد از لقمہ حلال  
 لقمہ تخم است و ہر ش اندیشہا • لقمہ بجز و گوہر ش اندیشہا  
 زائد از لقمہ حلال اندرویان • میل خدمت عزم سوآں جہاں  
 چون ز لقمہ تو حسد بینی دوام! • جہل و غفلت زائد از رادوں حرام  
 حق تعالی میری اس ناچیز گفتگو میں اثر دے اور میری مسلم قوم کو بیکاری  
 سے بچائے اور مجھے وہ دن دکھائے کہ میں اپنے ہر مسلمان بھائی کو دین دار،  
 فارغ البال اور مسلمانوں کا خیر خواہ دیکھوں۔ آمین یا آیت العزیزین۔ وصلى  
 الله تعالى على خير خلقه و نورا عرشه سيدنا و مولانا محمد و آله  
 و اصحابه اجمعين وهو ارحم الراحمين ط



احمد یار خاں نعیمی ایپری بدایونی

سرپرست مدرسہ نعیمیہ گجرات پاکستان

دینی سستی کتابیں ملنے کا پتہ

نعیمی کتب خانہ گجرات پاکستان

عنایت اندر خوشنویس ----- بمقام بھتی محرم





